Holy Bible

Aionian Edition®

آزادانہ اردو ہم عصر ترجمہ

Urdu Open Contemporary Bible

Gospel Primer

Table of Contents

Preface
Genesis 1-4
John 1-21
Revelation 19-22
66 Verses
Reader's Guide
Glossary
Maps
History
Destiny
Illustrations, Doré

Welcome to the *Gospel Primer*. The Aionian Bible invites you to review popular Christian understanding. Is it possible that the most well-known verse in the Bible is mistranslated, John 3:16? Are the destinies of Heaven and Hell really the whole story? And are misunderstandings of this magnitude even possible? First, know that the Aionian Bible does not abandon Christian heritage. We have much to learn from godly people throughout all ages. Yet, this booklet is a new primer to the truly good news of Jesus Christ, the savior of all mankind.

Holy Bible Aionian Edition ®

آزادانہ اردو ہم عصر ترجمہ
Urdu Open Contemporary Bible
Gospel Primer

Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International, 2018-2025
Source text: eBible.org
Source version: 5/21/2025
Source copyright: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0
Biblica, Inc., 1999, 2005, 2022, 2024

Formatted by Speedata Publisher 5.1.9 (Pro) on 6/18/2025
100% Free to Copy and Print
TOR Anonymously
https://AionianBible.org

Published by Nainoia Inc, https://Nainoia-Inc.signedon.net
All profits are given to https://CoolCup.org

We pray for a modern Creative Commons translation in every language
Translator resources at https://AionianBible.org/Third-Party-Publisher-Resources
Report content and format concerns to Nainoia Inc
Volunteer help is welcome and appreciated!

Preface

اردو at AionianBible.org/Preface

The *Holy Bible Aionian Edition* ® is the world's first Bible *un-translation*! What is an *un-translation*? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew, Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are *Christ*, *baptism*, *angel*, and *apostle*. The meaning is then preserved more accurately through context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven additional Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are *aiōn*, *aiōnios*, and *aïdios*, typically translated as *eternal* and also *world* or *eon*. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of *aiōnios*. Consider that researchers question if *aiōn* and *aiōnios* actually mean *eternal*. Translating *aiōn* as *eternal* in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word for *eternal* is *aïdios*, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon imprisonment. Yet what about *aiōnios* in John 3:16? Certainly we do not question whether salvation is eternal! However, *aiōnios* means something much more wonderful than infinite time! Ancient Greeks used *aiōn* to mean *eon* or *age*. They also used the adjective *aiōnios* to mean *entirety*, such as *complete* or even *consummate*, but never infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So *aiōnios* is the perfect description of God's Word which has *everything* we need for life and godliness! And the *aiōnios* life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life in the future, but the invitation through faith to the *consummate* life beginning now!

The next seven words are *Sheol*, *Hadēs*, *Geenna*, *Tartaroō*, *Abyssos*, and *Limnē Pyr*. These words are often translated as *Hell*, the place of eternal punishment. However, *Hell* is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, *Sheol* is the abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as *Hell*. *Hadēs* is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. *Geenna* is the Valley of Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. *Tartaroō* is a prison for demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. *Abyssos* is a temporary prison for the Beast and Satan. Translators are also inconsistent because *Hell* is used by the King James Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible zero times. Finally, *Limnē Pyr* is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The eleventh word, *eleēsē*, reveals the grand conclusion of grace in Romans 11:32. Please understand these eleven words. The original translation is unaltered and a highlighted note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net. The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by/4.0, allowing 100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's Guide and read at AionianBible.org, with Android, and with TOR network. Why purple? King Jesus' Word is royal and purple is the color of royalty! All profits are given to CoolCup.org.



آدمؔ کو نکال دینے کے بعد خُدا نے باغِ عدنؔ کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اَور چاروں طرف گھُومنے والی شُعلہ زن تلوار کو رکھا تا کہ وہ زندگی کے درخت کی طرف جانے والے راستہ کی حِفاظت کریں۔

پیدائش 3:24

پیدائش

1 اِبتدا میں خُدا نے آسمان اَور زمین کو خلق کیا۔ 2 تَب
زمین بے ڈول اَور سُنسان تھی، اَور گہراؤ کے اُوپر تاریکی
چھائی ہوئی تھی اَور خُدا کی رُوح پانی کی سطح پر جنبش
کرتی تھی۔ 3 اَور خُدا نے فرمایا،"رَوشنی ہو جا،"اَور رَوشنی
ہو گئی۔ 4 خُدا نے دیکھا کہ رَوشنی اَچھّی ہے اَور اُس
نے رَوشنی کو تاریکی سے جُدا کیا۔ 5 خُدا نے رَوشنی
کو"دِن"اَور تاریکی کو"رات"کا نام دیا۔ تَب شام ہُوئی اَور
پھر صُبح یہ پہلا دِن تھا۔ 6 اَور خُدا نے فرمایا،"پانیوں کے
درمیان فِضا ہو تا کہ وہ پانی کو پانی سے جُدا کر دے۔"
7 چنانچہ خُدا نے فِضا کو قائِم کیا اَور فِضا کے نیچے کے پانی
کو فِضا کے اُوپر کے پانی سے جُدا کر دیا اَور اَیسا ہی ہُوا۔
8 خُدا نے فِضا کو"آسمان"کا نام دیا اَور شام ہُوئی اَور پھر
صُبح یہ دُوسرا دِن تھا۔ 9 اَور خُدا نے فرمایا،"آسمان کے نیچے
کا پانی ایک جگہ جمع ہو اَور خُشکی نمُودار ہو اَور اَیسا ہی
ہُوا۔" 10 خُدا نے خُشکی کو"زمین"کا نام دیا اَورجو پانی
جمع ہو گیا تھا اُسے"سمُندر"کا نام دیا۔ اَور خُدا نے دیکھا کہ
یہ اَچھّا ہے۔ 11 تَب خُدا نے فرمایا،"زمین سبزی پیدا کرے
جَیسے بیج والے پَودے اَور بیج والے پھلدار درخت جو
اَپنی اَپنی جنس کے مُطابق زمین پر پھُولیں پھلیں۔"اَور اَیسا ہی
ہُوا۔ 12 تَب زمین نے سبزی پیدا کی یعنی بیج دار پَودے
اَور پھلدار درخت جِن میں اَپنی اَپنی جنس کے مُطابق بیج
ہوتے ہیں اَور خُدا نے دیکھا کہ یہ اَچھّا ہے۔ 13 اَور
شام ہُوئی اَور پھر صُبح یہ تیسرا دِن تھا۔ 14 اَور خُدا نے
فرمایا،"دِن کو رات سے الگ کرنے کے لِئے آسمان کی
فِضا میں نیّر ہُوں تا کہ وہ موسموں دِنوں اَور برسوں میں اِمتیاز
کرنے کے لِئے نِشان ٹھہریں۔ 15 اَور وہ آسمان کی فِضا میں
چمکیں، تا کہ زمین پر رَوشنی ڈالیں،"اَور اَیسا ہی ہُوا۔ 16 خُدا
نے دو بڑی رَوشنیاں بنائیں بڑی رَوشنی یعنی سُورج دِن پر
حُکومت کرنے کے لِئے اَور چھوٹی رَوشنی یعنی چاند رات پر
حُکومت کرنے کے لِئے۔ خُدا نے سِتارے بھی بنائے۔
17 خُدا نے اُنہیں آسمان کی فِضا میں قائِم کیا تا کہ وہ زمین پر
رَوشنی ڈالیں، 18 دِن اَور رات پر حُکومت کریں اَور رَوشنی
کو تاریکی سے جُدا کریں۔ اَور خُدا نے دیکھا کہ یہ اَچھّا
ہے۔ 19 اَور شام ہُوئی اَور پھر صُبح یہ چوتھا دِن تھا۔ 20 اَور
خُدا نے فرمایا،"پانی جانداروں کی کثرت سے بھر جائے
اَور پرندے زمین کے اُوپر آسمان کی فِضا میں پرواز کریں۔"
21 چنانچہ خُدا نے بڑی بڑی سمُندری مخلُوقات کو اَور سَب
زندہ اَور حرکت کرنے والی اَشیا کو جو پانی میں کثرت سے
پائی جاتی ہیں اَور طرح طرح کے پرندوں کو اُن کی جنس
کے مُطابق پیدا کیا۔ اَور خُدا نے دیکھا کہ یہ اَچھّا ہے۔
22 خُدا نے اُنہیں برکت دی اَور کہا،"پھُولو، پھلو اَور تعداد
میں بڑھو اَور سمُندر کے پانی کو بھر دو اَور پرندے زمین
پر بہت بڑھ جائیں۔" 23 اَور شام ہُوئی اَور صُبح ہوئی، یہ
پانچواں دِن تھا۔ 24 اَور خُدا نے فرمایا،"زمین جانداروں کو
اَپنی اَپنی جنس کے مُطابق پیدا کرے جَیسے مویشی، زمین پر
رینگنے والے جاندار اَور جنگلی جانوروں کو جو اَپنی اَپنی
قِسم کے مُطابق ہُوں اَور اَیسا ہی ہُوا۔" 25 خُدا نے جنگلی
جانوروں کو اُن کی اَپنی اَپنی جنس کے مُطابق، مویشیوں کو
اُن کی اَپنی اَپنی جنس کے مُطابق اَور زمین پر رینگنے والے
تمام جانداروں کو اَپنی اَپنی جنس کے مُطابق بنایا اَور خُدا
نے دیکھا کہ یہ اَچھّا ہے۔ 26 تَب خُدا نے فرمایا،"آؤ ہم
اِنسان کو اَپنی صورت اَور اَپنی شَبیہ پر بنائیں اَور وہ سمُندر کی
مچھلیوں، ہَوا کے پرندوں، مویشیوں، اَور ساری زمین پر اَور
اُن تمام زمین کی مخلُوقات پر رینگنے والے جنگلی جانوروں پر،
اِختیار رکھے۔" 27 چنانچہ خُدا نے اِنسان کو اَپنی صورت پر
پیدا کیا، اُسے خُدا کی صورت پر پیدا کیا؛ اَور اُنہیں مَرد اَور
عورت کی شکل میں پیدا کیا۔ 28 خُدا نے اُنہیں برکت دی
اَور اُن سے کہا،"پھُولو پھلو اَور تعداد میں بڑھو اَور زمین کو
معمُور و محکُوم کرو۔ سمُندر کی مچھلیوں، ہَوا کے پرندوں
اَور ہر جاندار مخلُوق پرجو زمین پر چلتی پھرتی ہے، اِختیار
رکھو۔" 29 پھر خُدا نے فرمایا،"مَیں تمام رُوئے زمین پر کا ہر

بیج دار پَودا اَور ہر درخت جِس میں اُس کا بیج دار پھل
ہو تُمہیں دیتا ہُوں۔ وہ تمہاری خُوراک ہوں گے۔ 30 اَور
مَیں زمین کے تمام چرندوں اَور ہَوا کے کُل پرندوں اَور زمین
پر رینگنے والوں کے لِئے جِن میں زندگی کا دَم ہے، ہر طرح
کے سبز پَودے خُوراک کے طور پر دیتا ہُوں۔“اَور اَیسا ہی
ہُوا۔ 31 اَور خُدا نے جو کُچھ بنایا تھا اُس پر نظر ڈالی اَور وہ
بہت ہی اَچھّا تھا اَور شام ہوئی اَور صُبح ہوئی، یہ چھٹا دِن
تھا۔

2 اِس طرح آسمان اَور زمین کا اَورجو کُچھ اُن میں تھا اُن
سَب کا بنایا جانا مُکمّل ہو گیا۔ 2 ساتویں دِن تک خُدا نے
اُس کام کو پُورا کیا جسے وہ کر رہے تھے؛ چنانچہ ساتویں
دِن وہ اَپنے سارے کام سے فارغ ہُوئے۔ 3 اَور خُدا نے
ساتویں دِن کو برکت دی اَور اُسے مُقدّس ٹھہرایا، کیونکہ
اُس دِن خُدا نے تخلیقِ کائنات کے سارے کام سے فراغت
پائی۔ 4 یہ ہے آسمان اَور زمین کی پیدائش جَب وہ وُجُود
میں لائے گئے۔ جَب یَاہوِہ خُدا نے زمین اَور آسمان کو
بنایا۔ 5 تو اُس وقت نہ تو کھیت کی کوئی جھاڑی زمین پر
نمُودار ہوئی تھی اَور نہ ہی کھیت کا کوئی پَودا اُگا تھا،
کیونکہ یَاہوِہ خُدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اَور نہ زمین
پر کوئی اِنسان ہی تھا جو کاشتکاری کرتا۔ 6 لیکن زمین سے
کُہر اُٹھتی تھی جو تمام رُوئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔
7 یَاہوِہ خُدا نے زمین کی مٹّی سے اِنسان کو بنایا اَور اُس کے
نتھنوں میں زندگی کا دَم پھُونکا اَور آدمؔ زندہ نَفس بنا۔ 8 اَور
یَاہوِہ خُدا نے مشرق کی جانِب عدنؔ میں ایک باغ لگایا اَور
آدمؔ کو اُنہُوں نے بنایا تھا اَور وہاں رکھا۔ 9 اَور یَاہوِہ خُدا
نے زمین سے ہر قِسم کا درخت اُگایا جو دیکھنے میں خُوشنما
اَور کھانے میں لذیذ تھا۔ اُس باغ کے درمیان زندگی کا
درخت اَور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی تھا۔ 10 عدنؔ
سے ایک ندی نکلتی تھی جو اُس باغ کو سیراب کرتی ہُوئی
چاروں ندیوں میں بٹ جاتی تھی۔ 11 پہلی ندی کا نام پِشونؔ
ہے جو حَویلہؔ کی ساری زمین کو جِہاں سونا ہوتا ہے،
گھیرے ہوئے ہے۔ 12 اُس زمین کا سونا عُمدہ ہوتا ہے اَور
وہاں موتی اَور سنگِ سُلیمانی بھی ہیں۔ 13 دُوسری ندی کا
نام گیحونؔ ہے جو کُوشؔ کی ساری زمین کو گھیرے
ہوئے ہے۔ 14 تیسری ندی کا نام حِدیکِل ہے جو اشُور
کے مشرق کو جاتی ہے اَور چوتھی ندی کا نام فراتؔ ہے۔
15 اَور یَاہوِہ خُدا نے آدمؔ کو باغِ عدنؔ میں رکھا تاکہ اُس
کی باغبانی اَور نِگرانی کرے۔ 16 اَور یَاہوِہ خُدا نے آدمؔ
کو حُکم دیا،”تُم اِس باغ کے کسی بھی درخت کا پھل
بے روک ٹوک کھا سکتے ہو؛ 17 لیکن تُم نیک و بد کی
پہچان کے درخت کا پھل ہرگز نہ کھانا، کیونکہ جَب تُم اُسے
کھاؤگے تو یقیناً مَر جاؤگے۔“ 18 یَاہوِہ خُدا نے فرمایا،”آدمؔ
کا اکیلا رہنا اَچھّا نہیں۔ مَیں ایک مددگار بناؤں گا جو
اُس کا ہم شریک ہو۔“ 19 تَب یَاہوِہ خُدا نے تمام جنگلی
جانور اَور ہَوا کے سَب پرندے زمین پر بنائے اَور وہ اُنہیں
آدمؔ کے پاس لے آئے، تاکہ دیکھیں کہ وہ اُن کے کیا نام
رکھتا ہے؛ اَور آدمؔ نے ہر جاندار مخلُوق کو جِس نام سے
پُکارا، وُہی اُس کا نام ٹھہرا۔ 20 اِس طرح آدمؔ نے سبھی
مویشیوں، ہَوا کے پرندوں اَور سارے جنگلی جانوروں کے
نام رکھے۔ لیکن آدمؔ کے لِئے اُس کی مانند کوئی مددگار نہ
مِلا۔ 21 تَب یَاہوِہ خُدا نے آدمؔ پر گہری نیند بھیجی؛ اَور
جَب آدمؔ سو رہے تھے، تو یَاہوِہ نے آپ کی پسلیوں میں سے
ایک پسلی نکال لی اَور اُس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ 22 تَب
یَاہوِہ خُدا نے اُس پسلی سے جسے خُدا نے آدمؔ میں سے
نکالا تھا، ایک عورت بنائی اَور وہ آدمؔ کے پاس لے آئے۔
23 آدمؔ نے فرمایا،”اَب یہ میری ہڈّیوں میں سے ہڈّی، اَور
میرے گوشت میں سے گوشت ہے؛ وہ’ناری‘کہلائے گی،
کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی تھی۔“ 24 اِس لِئے مَرد اَپنے
باپ اَور ماں سے جُدا ہوکر اَپنی بیوی کے ساتھ مِلا رہے گا
اَور وہ دونوں ایک جِسم ہوں گے۔ 25 اَور آدمؔ اَور اُن کی
بیوی دونوں ننگے تھے، اَور شرماتے نہ تھے۔

3 یَاھوِہ خُدا نے جتنے جنگلی جانور بنائے تھے، سانپ اُن
سَب سے عیّار تھا۔ اُس نے عورت سے کہا،”کیا واقعی خُدا
نے فرمایاھے کہ تُم باغ کے کسی درخت کا پھل نہ کھانا؟“
2 عورت نے سانپ سے کہا،”ہم باغ کے درختوں کا پھل
کھا سکتے ھیں، 3 لیکن خُدا نے یہ ضرور فرمایاھے کہ جو
درخت باغ کے درمیان ھے،’اُس کا پھل مت کھانا بَلکہ
اُسے چھُونا تک نہیں، ورنہ تُم مرجاؤگے۔‘“ 4 تَب سانپ نے
عورت سے کہا،”تُم ھرگز نہیں مروگے! 5 بلَکہ خُدا جانتا ھے
کہ جِس دِن تُم اُسے کھاؤگے، تمہاری آنکھیں کھُل جائیں
گی اَور تُم خُدا کی مانند نیکی اَور بدی کے جاننے والے بَن
جاؤگے۔“ 6 جَب عورت نے دیکھا کہ اُس درخت کا پھل
کھانے کے لِئے اَچھّا اَور دیکھنے میں خُوشنما اَور حِکمت
پانے کے لِئے خُوب مَعلُوم ھوتاھے، تو اُس نے اُس میں سے
لے کر کھایا اَور اَپنے خَاوند کو بھی دیا، جو اُس کے ساتھ
تھا اَور اُس نے بھی کھایا۔ 7 تَب اُن دونوں کی آنکھیں کھُل
گئیں اَور اُنہیں مَعلُوم ھُوا کہ وہ ننگے ھیں۔ اَور اُنہُوں نے
اَنجیر کے پتّوں کو سِی کر اَپنے لِئے پیش بند بنا لِئے۔ 8 تَب
آدمؔ اَور اُن کی بیوی نے یَاھوِہ خُدا کی آواز سُنی جَب کہ وہ
دِن ڈھلے باغ میں گھُوم رہے تھے اَور وہ یَاھوِہ خُدا کے
حُضُوری سے باغ کے درختوں میں چھُپ گئے۔ 9 لیکن
یَاھوِہ خُدا نے آدمؔ کو پُکارا اَور پُوچھا،”تُم کہاں ھو؟“
10 آدمؔ نے جَواب دیا،”مَیں نے باغ میں آپ کی آواز سُنی
اَور مَیں ڈر گیا کیونکہ مَیں ننگا تھا اِس لِئے مَیں چھُپ گیا۔“
11 اَور یَاھوِہ نے فرمایا،”تُمہیں کِس نے بتایا کہ تُم ننگے ھو؟
کیا تُم نے اُس درخت کا پھل کھایا ھے، جسے کھانے سے
مَیں نے تُمہیں منع کیا تھا؟“ 12 آدمؔ نے کہا،”جِس عورت
کو آپ نے یہاں میرے ساتھ رکھا ھے اُس نے مُجھے اُس
درخت کا وہ پھل دیا اَور مَیں نے اُسے کھا لیا۔“ 13 تَب
یَاھوِہ خُدا نے عورت سے فرمایا،”تُم نے یہ کیا کیا؟“عورت
نے کہا،”سانپ نے مُجھے بہکایا اَور مَیں نے کھایا۔“ 14 تَب
یَاھوِہ خُدا نے سانپ سے کہا،”چونکہ تُونے یہ کیا ھے،”اِس
لِئے تُو گھریلو مویشیوں میں، اَور تمام جنگلی جانوروں میں
ملعُون ٹھہرا! تُو اَپنے پیٹ کے بَل رینگے گا، اَور اَپنی عمر بھر
خاک چاٹے گا۔ 15 اَور مَیں تیرے اَور عورت کے درمیان،
اَور تیری نَسل اَور اُس کی نَسل کے درمیان، عداوت ڈالوں
گا، وہ تیرا سَر کُچلے گا، اَور تُو اُس کی اِیڑی پر کاٹے گا۔“
16 پھر خُدا نے عورت سے فرمایا،”مَیں تمہارے دردِ حَمل
کو بہت بڑھاؤں گا، تُو درد کے ساتھ بچّے جنے گی۔ اَور تیری
رغبت اَپنے خَاوند کی طرف ھوگی، اَور وہ تُجھ پر حُکومت
کرے گا۔“ 17 اَور خُدا نے آدمؔ سے فرمایا،”چونکہ تُم نے
اَپنی بیوی کی بات مانی اَور اُس درخت کا پھل کھایا،’جسے
کھانے سے مَیں نے منع کیا تھا،‘”اِس لِئے زمین تمہارے
سبب سے ملعُون ٹھہری، تُم محنت اَور مشقّت کرکے عمر بھر
اُس کی پیداوار کھاتے رھوگے۔ 18 وہ تمہارے لِئے کانٹے
اَور اُونٹ کٹارے اُگائے گی، اَور تُم کھیت کی سبزیاں
کھاؤگے۔ 19 تُم اَپنے ماتھے کے پسِینے کی روٹی کھاؤگے:
جَب تک کہ تُم زمین میں پھر لَوٹ نہ جاؤ، اِس لِئے کہ تُم
اُسی میں سے نکالے گئے ھو؛ کیونکہ تُم خاک ھو اَور خاک
ھی میں پھر لَوٹ جاؤگے۔“ 20 آدمؔ نے اَپنی بیوی کا نام حوّاؔ
رکھا، اِس لِئے کہ وہ تمام زندوں کی ماں ھے۔ 21 یَاھوِہ
خُدا نے آدمؔ اَور اُن کی بیوی کے لِئے چمڑے کے کُرتے بنا
کر اُنہیں پہنا دئیے۔ 22 اَور یَاھوِہ خُدا نے فرمایا،”اَب آدمی
نیک و بد کی پہچان میں ھم میں سے ایک کی مانند ھو گیا
ھے۔ کہیں اَیسا نہ ھو کہ وہ اَپنا ھاتھ بڑھائے اَور زندگی
کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھالے اَور ھمیشہ جیتا
رہے۔“ 23 لہٰذا یَاھوِہ خُدا نے اُسے باغ عدنؔ سے نکال دیا
تا کہ وہ اُس زمین کی، جِس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی
کرے۔ 24 آدمؔ کو نکال دینے کے بعد خُدا نے باغ عدنؔ
کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اَور چاروں طرف گھُومنے
والی شُعلہ زن تلوار کو رکھا تا کہ وہ زندگی کے درخت کی
طرف جانے والے راستہ کی حِفاظت کریں۔

4 اَور آدمؔ نے اَپنی بیوی حوّاؔ سے ہمبستری کی اَور
وہ حاملہ ہُوئی، اَور حوّاؔ نے قائِنؔ کو پیدا کیا۔ حوّاؔ نے
کہا،”مُجھے یَاہوِہ کی طرف سے ایک فرزند عطا ہُواہے۔“
2 اُس کے بعد قائِنؔ کے بھائی ہابلؔ کو پیدا کیا۔ ہابلؔ بھیڑ
بکریوں کا چرواہا تھا، اَور قائِنؔ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ 3 کچھ
عرصہ کے بعد قائِنؔ زمین کی پیداوار میں سے یَاہوِہ کے لیٔے
ہدیہ لایا۔ 4 اَور ہابلؔ بھی اَپنی بھیڑ بکریوں کے چند پہلوٹھے
بچّے اَور اُن کی چربی لے آیا، یَاہوِہ نے ہابلؔ اَور اُس کے
ہدیہ کو قبُول کیا، 5 لیکن قائِنؔ اَور اُس کے ہدیہ کو منظُور
نہیں کیا۔ لہٰذا قائِنؔ نہایت برہم ہُوا اَور اُس کا چہرہ اُتر گیا۔
6 تَب یَاہوِہ نے قائِنؔ سے فرمایا،”تُو کیوں برہم ہو گیا اَور تیرا
چہرہ کِس لیٔے اُترا ہُواہے؟ 7 اگر تُو بھلا کرے تو کیا تُو
مقبُول نہ ہوگا؟ لیکن اگر تُو بھلا نہ کرے، تو گُناہ تیرے
دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، اَور تُجھے دبوچ لینا چاہتاہے۔ لیکن
تُجھے اُس پر غالب آنا چاہئے۔“ 8 تَب قائِنؔ نے اَپنے بھائی
ہابلؔ سے کہا،”چلو ہم کھیت میں چلیں۔“اَور جَب وہ
کھیت میں تھے تو قائِنؔ نے اَپنے بھائی ہابلؔ پر حملہ کیا اَور اُسے
قتل کر ڈالا۔ 9 تَب یَاہوِہ نے قائِنؔ سے فرمایا،”تیرا بھائی
ہابلؔ کہاں ہے؟“اُس نے کہا،”مُجھے مَعلُوم نہیں۔ کیا مَیں
اَپنے بھائی کا نگہبان ہُوں؟“ 10 تَب یَاہوِہ نے فرمایا،”تُونے
یہ کیا کیا؟ تمہارے بھائی کا خُون زمین سے مُجھے پُکارتا ہے۔
11 اَب تُجھ پر لعنت ہے اَور جِس زمین نے تمہارے ہاتھ
سے تمہارے بھائی کا خُون لینے کے لیٔے اَپنا مُنہ کھولا تھا،
اُس نے تُجھے دھتکار دیا ہے۔ 12 جَب تُو زمین کو جوتے
گا، تو وہ تُجھے اَپنی پیداوار نہیں دے گی، اَور تُو بےچین
ہوکر زمین پر مارا مارا پھرتا رہے گا۔“ 13 قائِنؔ نے یَاہوِہ سے
کہا،”میری سزا میری برداشت سے باہر ہے۔ 14 آج آپ
مُجھے وطن سے نکال رہے ہیں اَور مَیں آپ کی حُضُوری سے
روپوش ہو جاؤں گا اَور بےچین ہوکر رُوئے زمین پر مارا
مارا پھرتا رہُوں گا اَورجو کوئی مُجھے پائےگا، قتل کر ڈالے
گا۔“ 15 لیکن یَاہوِہ نے اُس سے فرمایا،”اَیسا نہیں ہوگا،
بَلکہ جو کوئی قائِنؔ کو قتل کرے گا، اُس سے سات گُنا
بدلہ لیا جائے گا۔“تَب یَاہوِہ نے قائِنؔ پر ایک نِشان لگا دیا،
تاکہ کوئی اُسے پا کر قتل نہ کر دے۔ 16 چنانچہ قائِنؔ یَاہوِہ
کی حُضُوری سے نکل گیا اَور عدنؔ کے مشرق میں نودؔ کے
علاقہ میں جا بسا۔ 17 اَور قائِنؔ نے اَپنی بیوی سے ہمبستری
کی اَور وہ حاملہ ہُوئی اَور اُس سے حنوخؔ پیدا ہُوا۔ تَب قائِنؔ
نے ایک شہر بسایا اَور اُس کا نام اَپنے بیٹے کے نام پر حنوخؔ
رکھا۔ 18 حنوخؔ سے عیرادؔ پیدا ہُوا، اَور عیرادؔ سے مخُویاایلؔ
پیدا ہُوا۔ اَور مخُویاایلؔ سے مِتھوشاایلؔ پیدا ہُوا، اَور مِتھوشاایلؔ
سے لمکؔ پیدا ہُوا۔ 19 لمکؔ نے دو عورتوں سے شادی کی،
اُن میں سے ایک کا نام عدہؔ اَور دُوسری کا ضِلّہؔ تھا۔ 20 عدہؔ
کے ہاں یابلؔ پیدا ہُوا، وہ اُن کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے
تھے اَور مویشی پالتے تھے۔ 21 اُس کے بھائی کا نام یُوبلؔ تھا۔
وہ اُن لوگوں کا باپ تھا جو بربط اَور بانسری بجاتے تھے۔
22 ضِلّہؔ کے ہاں بھی تُوبل قائِنؔ نامی بیٹا پیدا ہُوا جو کانسے
اَور لوہے سے مُختلف قِسم کے اوزار بناتا تھا۔ نعمہؔ، تُوبل قائِنؔ
کی بہن تھی۔ 23 لمکؔ نے اَپنی بیویوں سے کہا،”اَے عدہؔ
اَور ضِلّہؔ! میری بات سُنو؛ اَے لمکؔ کی بیویو! میرے سُخن پر
کان لگاؤ؛ مَیں نے ایک آدمی کو جِس نے مُجھے زخمی کیا
تھا، مار ڈالا ہے، اَور چوٹ کھا کر ایک جَوان کو قتل کر
دیا۔ 24 اگر قائِنؔ کا بدلہ سات گُنا لیا جائے گا، تو لمکؔ کا
ستّر اَور سات گُنا۔“ 25 اَور آدمؔ پھر اَپنی بیوی کے پاس گیا
اَور اُن کے یہاں بیٹا پیدا ہُوا اَور اُس کا نام شیتؔ رکھا اَور
کہا،”خُدا نے مُجھے ہابلؔ کی جگہ جسے قائِنؔ نے قتل کیا،
دُوسرا فرزند عطا فرمایا۔“ 26 شیتؔ کے ہاں بھی ایک بیٹا
پیدا ہُوا اَور اُس نے اُس کا نام انُوشؔ رکھا۔ اُس وقت سے
لوگ یَاہوِہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔

یِسوعؔ نے دعا کی،”اَے باپ، اِنہیں مُعاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔“اَور اُنہُوں نے آپ کے کپڑوں پر قُرعہ ڈال کر آپس میں تقسیم کر لیا۔

لُوقا 23:34

یُوحنّا

1 اِبتدا میں کلام تھا اَور کلام خُدا کے ساتھ تھا اَور
کلام خُدا ھی تھا۔ 2 کلام اِبتدا سے ھی خُدا کے ساتھ تھا۔
3 سَب چیزیں کلام کے وسیلہ سے ھی پیدا کی گئیں؛ اَور
کوئی بھی چیز اَیسی نہیں جو کلام کے بغیر وُجُود میں آئی
ھو۔ 4 کلام میں زندگی تھی اَور وہ زندگی سَب آدمیوں کا نُور
تھی۔ 5 نُور تاریکی میں چمکتا ھے، اَور تاریکی اُسے کبھی
مغلُوب نہیں کر سکتی۔ 6 خُدا نے ایک شخص کو بھیجا جِن
کا نام حضرت یُوحنّا تھا۔ 7 وہ اِس لِئے آئے کہ اُس نُور کی
گواھی دیں، تا کہ سَب لوگ حضرت یُوحنّا کے ذریعہ سے
ایمان لائیں۔ 8 وہ خُود تو نُور نہ تھے؛ مگر نُور کی گواھی دینے
کے لِئے آئےتھے۔ 9 حقیقی نُور جو ھر اِنسان کو رَوشن
کرتا ھے، دُنیا میں آنے والا تھا۔ 10 وہ دُنیا میں تھے اَور
حالانکہ دُنیا اُنہیں کے وسیلہ سے پیدا ھوئی پھر بھی دُنیا والوں
نے اُنہیں نہ پہچانا۔ 11 وہ اَپنے لوگوں میں آئے، لیکن اُن
کے اَپنوں ھی نے اُنہیں قبُول نہیں کیا۔ 12 لیکن جِتنوں نے
اُنہیں قبُول کیا، اُنھُوں نے اُنہیں خُدا کے فرزند ھونے کا حق
بخشا یعنی اُنہیں جو اُن کے نام پر ایمان لائے۔ 13 وہ نہ تو
خُون سے، نہ جِسمانی خواھش سے اَور نہ اِنسان کے اَپنے
اِرادہ سے اَور نہ ھی شوھر کی مرضی سے بَلکہ خُدا سے
پیدا ھوئے ھیں۔ 14 اَور کلام مُجسّم ھُوا اَور ھمارے درمیان
فضل اَور سچّائی سے معمُور ھوکر خیمہ زن ھُوا، اَور ھم نے
اُن کا اَیسا جلال دیکھا، جو صِرف آسمانی باپ کے اِکلوتے
بیٹے کا ھوتاھے۔ 15 (اُن کے بارے میں حضرت یُوحنّا نے
گواھی دی۔ یُوحنّا نے پُکار کر، کہا،"یہ وُھی ھیں جِس
کے حق میں مَیں نے فرمایا تھا،'وہ جو میرے بعد آنے والے
ھیں، مُجھ سے کہیں مُقدّم ھیں کیونکہ وہ مُجھ سے پہلے ھی
مَوجُود تھے۔'") 16 وہ فضل سے معمُور ھیں اَور ھم سَب
نے اُن کی معمُوری میں سے فضل پر فضل حاصل کیا ھے۔
17 کیونکہ شَریعت تو حضرت مَوشہ کی مَعرفت دی گئی؛
مگر فضل اَور سچّائی کی بخشش یِسوعؔ المسیح کی مَعرفت مِلی۔
18 خُدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اِس واحد
خُدا نے جو باپ کے سَب سے نزدیک ھے، اُنھُوں نے ھی
باپ کو ظاھر کیا۔ 19 اَور حضرت یُوحنّا کی گواھی یہ
ھے کہ جَب یروشلیمؔ شہر کے یہُودی رہنماؤں نے بعض
کاہنوں اَور لیویوں کو حضرت یُوحنّا کے پاس بھیجا تا کہ وہ
اُن سے پُوچھیں کہ وہ کون ھیں۔ 20 حضرت یُوحنّا نے
کھُل کر اقرار کیا،"میں تو المسیح نہیں ھُوں۔" 21 اُنھُوں نے
اُن سے پُوچھا،"پھر آپ کون ھیں؟ کیا آپ حضرت ایلیّاہ
ھیں؟"حضرت یُوحنّا نے جَواب دیا،"میں نہیں۔""کیا آپ وہ
نبی ھیں؟"حضرت یُوحنّا نے جَواب دیا،"نہیں۔" 22 اُنھُوں
نے آخِری مرتبہ پُوچھا،"پھر آپ کون ھیں؟ ھمیں جَواب
دیجئے تا کہ ھم اَپنے بھیجنے والوں کو بتا سکیں۔ آخِر آپ اَپنے
بارے میں کیا کہتے ھیں؟" 23 حضرت یُوحنّا نے یَشعیاہ نبی
کے الفاظ میں جَواب دیا،"میں بیابان میں پُکارنے والے
کی آواز ھُوں،'خُداوَند کے لِئے راہ تیّار کرو۔'" 24 تَب وہ
فرِیسی جو حضرت یُوحنّا کے پاس بھیجے گئے تھے 25 اُن
سے پُوچھنے لگے،"اگر آپ المسیح نہیں ھیں، نہ حضرت ایلیّاہ
ھیں، اَور نہ ھی وہ نبی ھیں تو پھر پاک غُسل کیوں دیتے
ھیں؟" 26 حضرت یُوحنّا نے اُنہیں جَواب دیا،"میں تو صِرف
پانی سے پاک غُسل دیتا ھُوں، لیکن تمہارے درمیان وہ
شخص مَوجُود ھے جسے تُم نہیں جانتے۔ 27 وہ میرے بعد
آنے والا ھے، اَور مَیں اِس لائق بھی نہیں کہ اُن کے جُوتوں
کے تسمے بھی کھول سکوں۔" 28 یہ واقعات دریائے یردنؔ
کے پار بیت عنیّاہ میں ھُوا جہاں حضرت یُوحنّا پاک غُسل
دیا کرتے تھے۔ 29 اگلے دِن حضرت یُوحنّا نے حُضُور یِسوعؔ
کو اَپنی طرف آتے دیکھ کر کہا،"دیکھو، یہ خُدا کا برّہ
ھے، جو دُنیا کا گُناہ اُٹھالے جاتا ھے! 30 یہ وُھی ھیں جِن
کی بابت مَیں نے کہاتھا،'میرے بعد ایک شخص آنے والا
ھے جو مُجھ سے کہیں مُقدّم ھیں کیونکہ وہ مُجھ سے پہلے
ھی مَوجُود تھے۔' 31 میں خُود بھی اُنہیں نہیں جانتا تھا، مگر
میں اِس لِئے پانی سے پاک غُسل دیتا ھُوا آیاتھا تا کہ وہ بنی

اِسرائیلؔ پر ظاہر ہو جائیں۔“ 32 پھر حضرت یُوحنّاؔ نے یہ
گواہی دی:”مَیں نے رُوح کو آسمان سے کبُوتر کی شکل میں
نازل ہوتے دیکھا اَور وہ یِسوعؔ پر ٹھہرگیا۔ 33 میں اُنہیں نہ
پہچانتا تھا، مگر خُدا جنہوں نے مُجھے پانی سے پاک غُسل
دینے کے لئے بھیجا تھا اُسی نے مُجھے بتایا،’جِس اِنسان پر تو
پاک رُوح کو اُترتے اَور ٹھہرتے دیکھے وُہی وہ شخص ہے
جو پاک رُوح سے پاک غُسل دے گا۔‘ 34 اَب مَیں نے
دیکھ لیا ہے اَور گواہی دیتا ہُوں کہ یہ خُدا کا مخصُوص کیا
ہُوا بیٹا ہے۔“ 35 اُس کے اگلے دِن حضرت یُوحنّاؔ پھر اَپنے
دو شاگردوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ 36 حضرت یُوحنّاؔ نے
یِسوعؔ کو وہاں سے گزرتے دیکھ کر کہا،”دیکھو، یہ خُدا
کا برّہ ہے!“ 37 جَب اُن دو شاگردوں نے حضرت یُوحنّاؔ کو
یہ کہتے سُنا تو، وہ یِسوعؔ کے پیچھے ہو لیٔے۔ 38 یِسوعؔ نے مُڑ
کر اُنہیں پیچھے آتے دیکھا تو اُن سے پُوچھا،”تُم کیا چاہتے
ہو؟“اُنہُوں نے کہا،”ربّی“ (یعنی”اُستاد“)،”آپ کہاں رہتے
ہو؟“ 39 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”چلو، تو دیکھ لوگے۔“چنانچہ
اُنہُوں نے آپ کے ساتھ جا کر وہ جگہ دیکھی جہاں آپ
ٹھہرے ہوئے تھے، اَور اُس وقت شام کے چار بج چُکے
تھے اِس لئے وہ اُس دِن حُضُور کے ساتھ رہے۔ 40 اُن دو
شاگردوں میں ایک اَندریاسؔ تھا، جو شمعُونؔ پطرس کا بھائی
تھا، جو حضرت یُوحنّاؔ کی بات سُن کر یِسوعؔ کے پیچھے ہو لیا
تھا۔ 41 اَندریاسؔ نے سَب سے پہلا کام یہ کیا کہ اَپنے بھائی
شمعُونؔ کو ڈھونڈا اَور بتایا کہ،”ہمیں خرِستُسؔ“یعنی (خُدا
کے، المسیح) مِل گئے ہیں۔ 42 تَب اَندریاسؔ اُسے ساتھ
لے کر یِسوعؔ کے پاس آیا۔ یِسوعؔ نے اُس پر نگاہ ڈالی اَور
فرمایا،”تُم یُوحنّاؔ کے بیٹے شمعُونؔ ہو، اَب سے تمہارا نام کیفؔا
یعنی پطرس ہوگا۔“ 43 اگلے دِن یِسوعؔ نے گلیل کے علاقہ
میں جانے کا اِرادہ کیا۔ اَور فِلِپُّسؔ سے مِل کر یِسوعؔ نے اُس
سے فرمایا،”تُو میرے پیچھے ہولے۔“ 44 فِلِپُّسؔ، اَندریاسؔ اَور
پطرس کی طرح بیت صیؔدا شہر کا باشِندہ تھا۔ 45 فِلِپُّسؔ، نتن
ایل سے مِلا اَور اُسے بتایا کہ،”جِس شخص کا ذِکر حضرت
مَوشہ نے توریت شریف میں اَور نبیوں نے اَپنی صحیفوں
میں کیا ہے، وہ ہمیں مِل گیا ہے۔ وہ یُوسیفؔ کا بیٹا یِسوعؔ
ناصری ہیں۔“ 46 نتن ایل نے پُوچھا،”کیا ناصرتؔ سے بھی
کوئی اَچھّی چیز نکل سکتی ہے؟“فِلِپُّسؔ نے کہا،”چل کر
خُود ہی دیکھ لو۔“ 47 جَب یِسوعؔ نے نتن ایل کو پاس آتے
دیکھا تو اُس کے بارے میں فرمایا،”یہ ہے حقیقی اِسرائیلی،
جِس کے دِل میں کھوٹ نہیں۔“ 48 نتن ایل نے یِسوعؔ سے
پُوچھا،”آپ مُجھے کیسے جانتے ہیں؟“یِسوعؔ نے اُسے جَواب
دیا،”فِلِپُّسؔ کے بُلانے سے پہلے مَیں نے تُجھے دیکھ لیا تھا
جَب تو اَنجیر کے درخت کے نیچے تھا۔“ 49 نتن ایل نے
کہا،”ربّی، آپ خُدا کے بیٹے ہیں، آپ اِسرائیلؔ کے بادشاہ
ہیں۔“ 50 یِسوعؔ نے فرمایا،”کیا تُم یہ سُن کر ایمان لائے
ہو کہ مَیں نے تُم سے یہ کہا کہ مَیں نے تُمہیں اَنجیر کے
درخت کے نیچے دیکھا تھا۔ تُم اِس سے بھی بڑی بڑی باتیں
دیکھوگے۔“ 51 یِسوعؔ نے یہ بھی فرمایا،”میں تُم سے سچ سچ
کہتا ہُوں تُم آسمان کو کھُلا ہُوا، اَور خُدا کے فرشتوں کو
اِبن آدمؔ کے لئے اُوپر چڑھتے اَور نیچے اُترتے ‘دیکھوگے۔“

2 تیسرے دِن کانا گلِیل میں ایک شادی تھی۔ یِسوعؔ
کی ماں بھی وہاں مَوجُود تھیں۔ 2 یِسوعؔ اَور اُن کے شاگرد
بھی شادی میں بُلائے گئے تھے۔ 3 جَب انگوری شِیرہ ختم
ہو گیا، تو یِسوعؔ کی ماں نے اُن سے کہا،”اِن لوگوں کے
پاس اَب اَور انگوری شِیرہ نہیں رہا۔“ 4 یِسوعؔ نے اَپنی
ماں سے فرمایا،”اَے خاتُون، اِس سے آپ کا اَور میرا کیا
واسطہ ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے۔“ 5 یِسوعؔ کی ماں
نے خادِموں سے فرمایا،”جو کُچھ یِسوعؔ تُم سے فرمائیں وُہی
کرنا۔“ 6 نزدیک ہی چھ پتّھر کے مٹکے رکھے ہوئے تھے،
جو یہُودیوں کی رسمِ طہارت کے لئے اِستعمال میں آتے
تھے، اُن مٹکوں میں 75 سے 115 لیٹر پانی کی گنجائش تھی۔
7 یِسوعؔ نے خادِموں سے فرمایا،”مٹکوں میں پانی بھر دو“؛
اِس لئے اُنہُوں نے مٹکوں کو لبالب بھر دیا۔ 8 اُس کے بعد
یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا،”اَب کُچھ نکال کر اَمیر مجلِس کے

پاس لے جاؤ۔“اُنہوں نے اَیسا ھی کِیا۔ 9 جَب اَمیرِ مجلِس
نے وہ پانی چکھا جو انگوری شِیرے میں تبدیل ہو گیا تھا۔
اُسے پتا نہ تھا کہ وہ انگوری شِیرہ کہاں سے آیا ھے، لیکن اُن
خادِموں کو مَعلُوم تھا جو اُسے نکال کر لائے تھے۔ چنانچہ
اَمیرِ مجلِس نے دُلہا کو بُلایا 10 اَور اُس سے کہا،”ہر شخص
شروع میں اَچھّا انگوری شِیرہ پیش کرتا ھے اَور بعد میں
جَب مہمان سیر ہو جاتے ھیں تو گھٹیا قِسم کا انگوری شِیرہ
پیش کرتا ھے مگر تُو نے اَچھّا انگوری شِیرہ اَب تک رکھ
چھوڑا ھے۔“ 11 یہ یِسوعؔ کا پہلا معجزہ تھا جو آپ نے کانا
گلِیل میں دِکھایا اَور اَپنا جلال ظاھر کِیا، اَور آپ کے شاگرد
آپ پر ایمان لائے۔ 12 اُس کے بعد یِسوعؔ، اَپنی ماں، بھائیوں
اَور شاگردوں کے ساتھ کَفرنحُومؔ کو چلے گئے اَور وھاں کُچھ
دِن تک قِیام کِیا۔ 13 جَب یہُودیوں کی عیدِفسح نزدیک آئی
تو یِسوعؔ یروشلیمؔ روانہ ھوئے۔ 14 آپ نے وھاں بیت المُقدّس
کے صحنوں میں لوگوں کو بَیل، بھیڑ اَور کبُوتر فروشوں کو
اَور پیسے تبدیل کرنے والے صرّافوں کو بھی تختوں پر بیٹھے
ھوئے پایا۔ 15 اِس لِئے یِسوعؔ نے رسّیوں کا کوڑا بنا کر اُن
سَب کو بھیڑوں اَور بَیلوں سمیت، پیسے تبدیل کرنے والے
صرّافوں کے سِکّے بِکھیر دِیئے اَور اُن کے تختے اُلٹ کر اُنہیں
بیت المُقدّس سے باھر نکال دیا۔ 16 اَور کبُوتر فروشوں سے
فرمایا،”اِنہیں یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو
تجارت کا گھر مت بناؤ۔“ 17 حُضُور کے شاگردوں کو یاد
آیا کہ کِتاب مُقدّس میں لِکھّا ھے:”تیرے گھر کی غیرت
مُجھے کھائے جاتی ھے۔“ 18 تَب یہُودی رھنماؤں نے آپ
سے کہا،”کیا تُم کوئی معجزہ دِکھا کر ثابت کر سکتے ہو کہ
تُمہیں یہ سَب کرنے کا حق ھے؟“ 19 یِسوعؔ نے اُنہیں جَواب
دیا،”اِس بیت المُقدّس کو گرا دو، تو میں اِسے تین دِن میں
پھر کھڑا کر دُوں گا۔“ 20 یہُودیوں نے جَواب دیا،”اِس
بیت المُقدّس کی تعمیر میں چھیالیس سال لگے ھیں، اَور کیا
تُم تین دِن میں اِسے دوبارہ بنا دوگے؟“ 21 لیکن یِسوعؔ نے
جِس بیت المُقدّس کی بات کی تھی وہ اُن کا اَپنا جِسم تھا۔
22 چنانچہ جَب وہ مُردوں میں سے جی اُٹھے تب آپ کے
شاگردوں کو یاد آیا کہ حُضُور نے یہ بات کہی تھی۔ تَب
اُنہوں نے کِتاب مُقدّس پر اَور یِسوعؔ کے کہے ھوئے الفاظ
پر یقین کِیا۔ 23 جَب یِسوعؔ عیدِفسح پر یروشلیمؔ میں تھے تو
بہت سے لوگ آپ کے معجزے دیکھ کر آپ کے نام پر
ایمان لے آئے۔ 24 مگر یِسوعؔ کو اُن پر اِعتبار نہ تھا، اِس لِئے
کہ آپ سَب اِنسانوں کا حال جانتے تھے۔ 25 حُضُور کو یہ
ضرُورت نہ تھی کہ کوئی آدمی آپ کو کِسی دُوسرے آدمی
کے بارے میں گواھی دے کیونکہ یِسوعؔ ہر ایک اِنسان
کے دِل کا حال جانتے تھے۔

3 فریسیوں میں ایک آدمی تھا جِس کا نام نِیکُودِیمُسؔ تھا
جو یہُودیوں کی عدالتِ عالیہ کا رُکن تھا۔ 2 ایک رات وہ
یِسوعؔ کے پاس آکر کہنے لگا،”اَے ربّی، ہم جانتے ھیں کہ
خُدا نے آپ کو اُستاد بنا کر بھیجا ھے کیونکہ جو معجزے
آپ دِکھاتے ھیں، کوئی نہیں دِکھا سَکتا جَب تک کہ خُدا
اُس کے ساتھ نہ ھو۔“ 3 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”مَیں تُجھ سے
سچ سچ کہتا ھُوں کہ جَب تک کوئی نئے سِرے سے پیدا نہ
ھو، وہ خُدا کی بادشاھی کو نہیں دیکھ سَکتا۔“ 4 نِیکُودِیمُسؔ
نے پُوچھا،”اگر کوئی آدمی بُوڑھا ھو تو وہ کِس طرح دوبارہ
پیدا ھو سَکتا ھے؟ یہ ممکن نہیں کہ وہ پھر سے اَپنی ماں کے
پیٹ میں داخل ھوکر پیدا ھو۔“ 5 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”مَیں
تُجھ سے سچ سچ کہتا ھُوں کہ جَب تک کوئی شخص پانی اَور
رُوح سے پیدا نہ ھو، وہ خُدا کی بادشاھی میں داخل نہیں ھو
سَکتا۔ 6 بشر سے تو بشر ھی پیدا ھوتاھے مگر جو رُوح سے
پیدا ھوتاھے وہ رُوح ھے۔ 7 تعجُّب نہ کر مَیں نے تُجھ سے
فرمایا،’تُم سَب کو نئے سِرے سے پیدا ھونا لازمی ھے۔‘
8 ھَواجِدھر چلنا چاھتی ھے چلتی ھے۔ تُم اُس کی آواز تو
سُنتے ھو، مگر یہ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آتی ھے اَور
کہاں جاتی ھے۔ پس رُوح سے پیدا ھونے والے ہر آدمی کا
حال بھی اَیسا ھی ھے۔“ 9 نِیکُودِیمُسؔ نے پُوچھا،”یہ کیسے
ممکن ھو سَکتا ھے؟“ 10 یِسوعؔ نے فرمایا،”تُم تو بنی اِسرائیلؔ

میں اُستاد کا درجہ رکھتے ہو، پھر بھی یہ باتیں نہیں سمجھتے؟
11 مَیں تُجھ سے سچ سچ کہتا ہُوں کہ ہم جو جانتے ہیں وُہی
کہتے ہیں اَور جسے دیکھ چُکے ہیں اُسی کی گواہی دیتے
ہیں۔ پھر بھی تُم لوگ ہماری گواہی کو نہیں مانتے۔ 12 مَیں
نے تُم سے زمین کی باتیں کہیں اَور تُم نے یقین نہ کیا تو اگر
مَیں تُم سے آسمان کی باتیں کہُوں تو تُم کیسے یقین کروگے؟
13 کوئی اِنسان آسمان پر نہیں گیا سِوائے اُس کے جو آسمان
سے آیا یعنی اِبنِ آدمؔ۔ 14 جِس طرح حضرت مَوشہ نے بیابان
میں پیتل کے سانپ کو لکڑی پر لٹکا کر اُونچا اُٹھایا اُسی طرح
ضرُوری ہے کہ اِبنِ آدمؔ بھی بُلند کیا جائے۔ 15 تاکہ جو
کوئی اُن پر ایمان لائے اَبدی زندگی پائے۔“ (aiōnios g166)
16 کیونکہ خُدا نے دُنیا سے اِس قدر مَحَبّت کی کہ اَپنا اِکلوتا
بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو
بَلکہ اَبدی زندگی پائے۔ (aiōnios g166) 17 کیونکہ خُدا نے
بیٹے کو دُنیا میں اِس لیٔے نہیں بھیجا کہ دُنیا کو سزا کا حُکم
سُنائے بَلکہ اِس لیٔے کہ دُنیا کو بیٹے کے وسیلہ سے نَجات
بخشے۔ 18 جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اُس پر سزا کا حُکم نہیں
ہوتا لیکن جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اُس پر پہلے ہی سزا کا
حُکم ہو چُکاہے کیونکہ وہ خُدا کے اِکلوتے بیٹے کے نام پر
ایمان نہیں لایا۔ 19 اَور سزا کے حُکم کا سبب یہ ہے کہ نُور
دُنیا میں آیا ہے مگر لوگوں نے نُور کی بجائے تاریکی کو
پسند کیا کیونکہ اُن کے کام بُرے تھے۔ 20 جو کوئی بُرے
کام کرتا ہے وہ نُور سے نفرت کرتا ہے اَور نُور کے پاس
نہیں آتا۔ کہیں اَیسا نہ ہو کہ اُس کے بُرے کام ظاہر ہو
جائیں۔ 21 لیکن جِس کی زندگی سچّائی کے لیٔے وقف ہے وہ
نُور کے پاس آتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ اُس کا ہر کام خُدا
کی مرضی کے مُطابق اَنجام پایا ہُواہے۔ 22 اِن باتوں کے
بعد یِسوعؔ اَور اُن کے شاگرد یہُودیہؔ کے علاقہ میں گیٔے، اَور
وہاں رہ کر لوگوں کو پاک غُسل دینے لگے۔ 23 حضرت
یُوحنّا بھی عینونؔ میں پاک غُسل دیتے تھے جو شالِیمؔ کے
نزدیک تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں پانی بہت تھا، اَور لوگ
پاک غُسل لینے کے لیٔے آتے رہتے تھے۔ 24 (یہ حضرت
یُوحنّا کے قَیدخانہ میں ڈالے جانے کے پہلے کی بات ہے۔)
25 حضرت یُوحنّا کے شاگردوں کی ایک یہُودی سے اُس
رسمِ طہارت کے بارے میں جو پانی سے اَنجام دی جاتی
تھی، بحث شروع ہوئی۔ 26 اِس لیٔے وہ حضرت یُوحنّا کے
پاس آکر کہنے لگے،”اَے ربّی وہ شخص جو دریائے یردنؔ
کے اُس پار آپ کے ساتھ تھا اَور جِن کے بارے میں آپ
نے گواہی دی تھی، وہ بھی پاک غُسل دیتے ہیں اَور سَب
لوگ اُن ہی کے پاس جاتے ہیں۔“ 27 حضرت یُوحنّا نے
جَواب دیا،”اِنسان کُچھ نہیں حاصل کر سَکتا جَب تک کہ
اُسے آسمانی خُدا کی طرف سے نہ دیا جائے۔ 28 تُم خُود
گواہ ہو کہ مَیں نے کہاتھا کہ،’میں المسیح نہیں بَلکہ اُن
سے پہلے بھیجا گیا ہُوں۔‘ 29 دُلہن تو دُلہا کی ہوتی ہی ہے
مگر دُلہے کا دوست جو دُلہا کی خدمت میں ہوتاہے، دُلہا
کی ہر بات پر کان لگائے رکھتا ہے اَور اُس کی آواز سُن کر
خُوش ہوتاہے۔ پس اَب میری یہ خُوشی پُوری ہو گئی۔
30 لازِم ہے کہ وہ بڑھے اَور مَیں گھٹتا رہُوں۔“ 31 جو اُوپر
سے آتا ہے وہ سَب سے اُونچا ہوتاہے؛ جو شخص زمین سے
ہے زمینی ہے، اَور زمین کی باتیں کرتا ہے۔ مگر جو آسمان
سے آتا ہے وہ سَب سے اُونچا ہوتاہے۔ 32 اُنہُوں نے جو کُچھ
خُود دیکھا اَور سُنا ہے اُسی کی گواہی دیتے ہیں۔ لیکن اُن
کی گواہی کوئی بھی نہیں قبُول کرتا۔ 33 لیکن جِس نے اُن
کی گواہی کو قبُول کیا ہے وہ تصدیق کرتا ہے کہ خُدا
سچّا ہے۔ 34 کیونکہ جسے خُدا نے بھیجا ہے وہ خُدا کی
باتیں کہتاہے، اِس لیٔے کہ خُدا بغیر حِساب کے پاک رُوح
دیتاہے۔ 35 باپ بیٹے سے مَحَبّت رکھتا ہے اَور باپ نے سَب
کُچھ بیٹے کے حوالہ کر دیا ہے۔ 36 جو کوئی بیٹے پر ایمان لاتا
ہے وہ اَبدی زندگی پاتاہے، لیکن جو کوئی بیٹے کو ردّ کرتا
ہے وہ زندگی سے محروم ہوکر، خُدا کے غضب میں مُبتلا
رہتاہے۔ (aiōnios g166)

4 فریسیوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ بہت
سے لوگ یِسوعؔ کے شاگرد بَن رہے ہیں اَور اُن کی تعداد
حضرت یُوحنّؔا سے پاک غُسل پانے والوں سے بھی زِیادہ
ہے۔ 2 حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یِسوعؔ خُود نہیں بَلکہ اُن
کے شاگرد پاک غُسل دیتے تھے۔ 3 جَب خُداوؔند کو یہ
بات مَعلُوم ہُوئی تو وہ یہُودیؔہ کو چھوڑکر واپس گلِیل کو
چلے گئے۔ 4 چونکہ خُداوؔند کو سامریہؔ سے ہوکر گزرنا تھا
5 اِس لیٔے وہ سامریہؔ کے ایک سُوخاؔر نامی شہر میں آئے
جو اُس آراضی کے نزدیک واقع ہے جو حضرت یعقوب
نے اَپنے بیٹے یُوسیفؔ کو دیا تھا۔ 6 حضرت یعقوب کا
کُنواں وہیں تھا اَور یِسوعؔ سفر کی تھکان کی وجہ سے اُس
کنویں کے نزدیک بیٹھ گیٔے۔ یہ دوپہر کا درمیانی وقت
تھا۔ 7 ایک سامری عورت وہاں پانی بھرنے آئی۔ یِسوعؔ
نے عورت سے کہا، ”مُجھے پانی پِلا؟“ 8 (کیونکہ یِسوعؔ کے
شاگرد کھانا مول لینے شہر گیٔے ہویٔے تھے۔) 9 اُس سامری
عورت نے یِسوعؔ سے کہا، ”آپ تو یہُودی ہیں اَور مَیں ایک
سامری عورت ہُوں، آپ تو مُجھ سے پانی پِلانے کو کہتے
ہیں؟“ (کیونکہ یہُودی سامریوں سے کویٔی میل جول پسند
نہیں کرتے تھے)۔ 10 یِسوعؔ نے اُسے جَواب دیا، ”اگر تُو خُدا
کی بخشش کو جانتی اَور یہ بھی جانتی کہ کون تُجھ سے پانی
مانگ رہاہے تو تُو اُس سے مانگتی اَور وہ تُجھے زندگی کا
پانی دیتا۔“ 11 عورت نے کہا، ”جَناب، آپ کے پاس پانی
بھرنے کے لیٔے کُچھ بھی نہیں اَور کنواں بہت گہرا ہے، آپ
کو زندگی کا پانی کہاں سے ملے گا؟ 12 کیا آپ ہمارے باپ
یعقوب سے بھی بڑے ہو جنہوں نے یہ کنواں ہمیں دیا اَور
خُود اُنہُوں نے اَور اُن کی اَولاد نے اَور اُن کے مویشیوں نے
اِسی کنویں کا پانی پیا؟“ 13 یِسوعؔ نے جَواب دیا، ”جو کویٔی
یہ پانی پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، 14 لیکن جو کویٔی وہ پانی
پیتا ہے جو میں دیتا ہُوں، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حقیقت
تو یہ ہے کہ جو پانی میں دُوں گا وہ اُس میں زندگی کا
چشمہ بَن جائے گا اَور ہمیشہ جاری رہے گا۔“ (aiōn g165,
aiōnios g166) 15 عورت نے یِسوعؔ سے کہا، ”جَناب! مُجھے
بھی یہ پانی دے دیجئے تاکہ میں پیاسی نہ رہُوں اَور نہ ہی
مُجھے بھرنے کے لیٔے یہاں آنا پڑے۔“ 16 یِسوعؔ نے عورت
سے فرمایا، ”جا، اَور اَپنے شوہر کو بُلا لا۔“ 17 عورت نے
جَواب دیا، ”میرا کویٔی شوہر نہیں ہے۔“یِسوعؔ نے عورت سے
فرمایا، ”تُو سچ کہتی ہے کہ تیرا کویٔی شوہر نہیں ہے۔ 18 تُو
پانچ شوہر کر چُکی ہے اَور جِس کے پاس تُو اَب رہتی ہے
وہ آدمی بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ آپ نے جو کُچھ عرض کیا
بالکُل سچ ہے۔“ 19 عورت نے کہا، ”جَناب، مُجھے لگتا ہے
کہ آپ کویٔی نبی ہیں۔ 20 ہمارے آباؤاَجداد نے اِس پہاڑ
پر پرستش کی لیکن تُم یہُودی دعویٰ کرتے ہو کہ وہ جگہ
جہاں پرستش کرنا چاہئے یروشلیمؔ میں ہے۔“ 21 یِسوعؔ نے
فرمایا، ”اَے عورت میرا یقین کر۔ وہ وقت آ رہاہے جَب تُم
لوگ باپ کی پرستش نہ تو اِس پہاڑ پر کروگے نہ یروشلیمؔ
میں۔ 22 تُم سامری لوگ جِس کی پرستش کرتے ہو اُسے
جانتے تک نہیں۔ ہم جِس کی پرستش کرتے ہیں اُسے
جانتے ہیں کیونکہ نَجات یہُودیوں میں سے ہے۔ 23 لیکن وہ
وقت آ رہاہے بَلکہ آ چُکاہے جَب سچّے پرستار باپ کی رُوح
اَور سچّائی سے پرستش کریں گے کیونکہ باپ کو اَیسے ہی
پرستاروں کی جُستجو ہے 24 خُدا رُوح ہے اَور خُدا کے
پرستاروں کو لازِم ہے کہ وہ رُوح اَور سچّائی سے خُدا کی
پرستش کریں۔“ 25 عورت نے کہا، ”میں جانتی ہُوں کہ
المسیح ”جسے (خرِستُسؔ کہتے ہیں)“ آنے والے ہیں۔ جَب
وہ آئیں گے، تو ہمیں سَب کُچھ سمجھا دیں گے۔“ 26 اِس پر
یِسوعؔ نے فرمایا، ”میں جو تُجھ سے باتیں کر رہا ہُوں، وُہی تو
میں ہُوں۔“ 27 اِتنے میں یِسوعؔ کے شاگرد لَوٹ آئے اَور یِسوعؔ
کو ایک عورت سے باتیں کرتا دیکھ کر حیران ہویٔے۔ لیکن
کسی نے نہ پُوچھا، ”آپ کیا چاہتے ہیں؟“یا اِس عورت سے
کِس لیٔے باتیں کر رہے ہیں؟ 28 وہ عورت پانی کا گھڑا
وہیں چھوڑکر واپس شہر چلی گئی اَور لوگوں سے کہنے لگی،
29 ”آؤ ایک آدمی سے مِلو جِس نے مُجھے سَب کُچھ بتا دیا،

جو مَیں نے کیا تھا۔ کیا یہی المسیح تو نہیں؟" 30 شَہری لوگ
باہر نکلے اَور یِسوعؔ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 31 اِس دَوران
یِسوعؔ کے شاگرد اُن سے درخواست کرنے لگے،"ربّی، کُچھ
کھالیجئے۔" 32 لیکن یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا،"مُجھے ایک
کھانا لازمی طور پر کھانا ہے لیکن تُمہیں اُس کے بارے میں
کُچھ بھی خبر نہیں۔" 33 تَب شاگرد آپَس میں کہنے لگے،"کیا
کوئی پہلے ہی سے اُن کے لِئے کھانا لے آیا ہے؟" 34 یِسوعؔ
نے فرمایا،"میرا کھانا، یہ ہے کہ جنہوں نے مُجھے بھیجا
ہے، میں اُن ہی کی مرضی پُوری کروں اَور اُن کا کام اَنجام
دُوں۔ 35 یہ مت کہو کہ کیا فصل پکنے میں،'ابھی چار ماہ
باقی ہیں'؟ میں تُم سے کہتا ہُوں کہ اَپنی آنکھیں کھولو اَور
کھیتوں پر نظر ڈالو۔ اُن کی فصل پک کر تیّار ہے۔ 36 بَلکہ
اَب فصل کاٹنے والا اَپنی مزدُوری پاتاہے اَور اَبدی زندگی
کی فصل کاٹتا ہے تاکہ بونے والا اَور کاٹنے والا دونوں مِل
کر خُوشی منائیں۔ (aiōnios g166) 37 چنانچہ یہ مثال برحق
ہے'بوتا کوئی اَور ہے اَور کاٹتا کوئی اَور۔' 38 مَیں نے
تُمہیں بھیجا تاکہ اُس فصل کو جو تُم نے نہیں بوئی، کاٹ
لو۔ دُوسروں نے محنت سے کام کیا اَور تُم اُن کی محنت کے
پھل میں شامل ہوئے۔" 39 شہر کے بہت سے سامری اُس
عورت کی گواہی سُن کر یِسوعؔ پر ایمان لائے،"اُنہُوں نے
مُجھے سَب کُچھ بتا دیا جو مَیں نے کیا تھا۔" 40 پس جَب شہر
کے سامری اُن کے پاس آئے تو یِسوعؔ سے درخواست کرنے
لگے کہ ہمارے پاس ٹھہر جائیں، لہٰذا وہ دو دِن تک اُن
کے ساتھ رہے 41 اَور بھی بہت سے لوگ تھے جو المسیح کی
تعلیم سُن کر آپ پر ایمان لائے۔ 42 اُنہُوں نے اُس عورت
سے کہا،"ہم تیری باتیں سُن کر ہی ایمان نہیں لائے، بَلکہ
اَب ہم نے اَپنے کانوں سے سُن لیا ہے اَور ہم جان گئے ہیں
کہ یہ آدمی حقیقت میں دُنیا کا مُنجّی ہے۔" 43 دو دِن
بعد یِسوعؔ پھر گلِیل کی سمت چل دئیے۔ 44 یِسوعؔ نے خُود
ہی بتا دیا تھا کہ کوئی نبی اَپنے وطن میں عزّت نہیں پاتا۔
45 جَب وہ گلِیل میں آئے تو اہلِ گلِیل نے یِسوعؔ کو قبُول کیا
اِس لِئے کہ اُنہُوں نے وہ سَب کُچھ جو آپ نے عیدِفسح
کے موقع پر یروشلیمؔ میں کیا تھا اَپنی آنکھوں سے دیکھا تھا
کیونکہ وہ خُود بھی وہاں مَوجُود تھے۔ 46 یہ دُوسرا موقع
تھا جَب وہ کانا گلِیل میں آئےتھے جہاں آپ نے پانی کو
انگوری شِیرے میں تبدیل کیا تھا۔ ایک شاہی حاکم تھا
جِس کا بیٹا کَفرنحُومؔ میں بیمار پڑا تھا۔ 47 جَب حاکم نے سُنا
کہ یِسوعؔ یہُودیؔہ سے گلِیل میں آئے ہوئے ہیں تو وہ یِسوعؔ
کے پاس پہُنچا اَور درخواست کرنے لگا کہ میرا بیٹا مَرنے
کے قریب ہے۔ آپ چل کر اُسے شفا دے دیجئے۔ 48 یِسوعؔ
نے شاہی حاکم سے فرمایا،"جَب تک تُم لوگ نِشانات اَور
عجائبات نہ دیکھ لو، ہرگز ایمان نہ لاؤگے۔" 49 اُس شاہی
حاکم نے کہا،"اَے آقا! جلدی کیجئے، کہیں اَیسا نہ ہو کہ
میرا بیٹا مَر جائے۔" 50 یِسوعؔ نے جَواب دیا،"رخصت ہو،
تیرا بیٹا سلامت رہے گا۔"اُس نے یِسوعؔ کی بات کا یقین کیا
اَور وہاں سے چلا گیا۔ 51 ابھی وہ راستہ ہی میں تھا کہ اُس
کے خادِم اُسے ملے اَور کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا سلامت
ہے۔ 52 جَب شاہی حاکم نے پُوچھا کہ میرا بیٹا کِس وقت
سے اَچھّا ہونے لگا تھا تو خادِموں نے بتایا،"کل دوپہر تقریباً
ایک بجے کے قریب بیٹے کا بُخار اُتر گیا تھا۔" 53 تَب باپ کو
احساس ہُوا کہ عَین وُہی وقت تھا جَب یِسوعؔ نے اُس سے
فرمایا تھا،"تیرا بیٹا سلامت رہے گا۔"چنانچہ وہ خُود اَور
اُس کا سارا خاندان یِسوعؔ پر ایمان لایا۔ 54 یہ دُوسرا معجزہ
تھا جو یِسوعؔ نے یہُودیؔہ سے آنے کے بعد گلِیل میں کیا تھا۔

5 اِس کے بعد یِسوعؔ یہُودیوں کی ایک عید کے لِئے
یروشلیمؔ تشریف لے گئے۔ 2 یروشلیمؔ میں بھیڑ دروازہ کے پاس
ایک حوض ہے جو عِبرانی زبان میں بیت حَسدؔا کہلاتا ہے
اَورجو پانچ برامدوں سے گھرا ہُواہے۔ 3 اِن برامدوں میں
بہت سے اَندھے، لنگڑے اَور مفلُوج پڑے رہتے تھے، پڑے
پڑے پانی کے ہلنے کا اِنتظار کرتے تھے۔ 4 کہا جاتا تھا
کہ خُداوؔند کا فرشتہ کسی وقت نیچے اُتر کر پانی ہلاتا اَور
پانی کے ہلتے ہی جو کوئی پہلے حوض میں اُتر جاتا تھا وہ

تندرست ہو جاتا تھا خواہ وہ کسی بھی مرض کا شِکار ہو۔
5 وہاں ایک اَیسا آدمی بھی پڑا ہُوا تھا جو اڑتیس بَرس سے
مفلُوج تھا۔ 6 جَب یِسوعؔ نے اُسے وہاں پڑا دیکھا اَور جان لیا
کہ وہ ایک مُدّت سے اُسی حالت میں ہے تو یِسوعؔ نے اُس
مفلُوج سے پُوچھا، ”کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟“ 7 اُس
مفلُوج نے جَواب دیا، ”آقا، جَب پانی ہلایا جاتا ہے تو میرا
کوئی نہیں ہے جو حوض میں اُترنے کے لِئے میری مدد کر
سکے بَلکہ میرے حوض تک پہُنچتے پہُنچتے کوئی اَور اُس
میں اُتر جاتا ہے۔“ 8 یِسوعؔ نے اُس سے فرمایا، ”اُٹھ اَور اَپنا
بچھونا اُٹھا اَور چل، پھر۔“ 9 وہ آدمی اُسی وقت تندرست ہو
گیا اَور اَپنا بچھونا اُٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ یہ واقعہ سَبت کے
دِن ہُوا تھا۔ 10 یہُودی رہنما اُس آدمی سے جو تندرست ہو
گیا تھا کہنے لگے، ”آج سَبت کا دِن ہے، اَور شَریعت کے
مُطابق تیرا بچھونا اُٹھا کر چلنا روا نہیں۔“ 11 اُس نے جَواب
دیا، ”جِس آدمی نے مُجھے شفا بخشی اُن ہی نے مُجھے حُکم
دیا تھا کہ 'اَپنا بچھونا اُٹھا کر چل پھر۔'“ 12 اُنہُوں نے اُس
مفلُوج سے پُوچھا، ”کون ہے وہ جِس نے تُجھے بچھونا اُٹھا کر
چلنے پھرنے کا حُکم دیا ہے؟“ 13 شفا پانے والے آدمی کو
کُچھ نہیں مَعلُوم تھا کہ اُسے حُکم دینے والا کون ہے کیونکہ
یِسوعؔ لوگوں کے ہُجوم میں کہیں آگے نکل گئے تھے۔ 14 بعد
میں یِسوعؔ نے اُس آدمی کو بیت المُقدّس میں دیکھ کر اُس
سے فرمایا، دیکھ، ”اَب تو تندرست ہو گیا ہے، گُناہ سے
دُور رہنا ورنہ تُجھ پر اِس سے بھی بڑی آفت نہ آ جائے۔“
15 اُس نے جا کر یہُودی رہنماؤں کو بتایا کہ جِس نے
مُجھے تندرست کیا وہ یِسوعؔ ہیں۔ 16 یِسوعؔ اَیسے معجزے
سَبت کے دِن بھی کرتے تھے اِس لِئے یہُودی رہنما آپ کو
ستانے لگے۔ 17 یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا، ”میرا باپ اَب تک
اَپنا کام کر رہا ہے اَور مَیں بھی کر رہا ہُوں۔“ 18 اِس وجہ
سے یہُودی رہنما یِسوعؔ کو قتل کرنے کی کوشش میں پہلے
سے بھی زِیادہ سرگرم ہو گئے کیونکہ اُن کے نزدیک یِسوعؔ نہ
صِرف سَبت کے حُکم کی خِلاف ورزی کرتے تھے بَلکہ
خُدا کو اَپنا باپ کہہ کر پُکارتے تھے گویا وہ خُدا کے
برابر تھے۔ 19 یِسوعؔ نے اُنہیں یہ جَواب دیا، ”میں تُم سے سچ
سچ کہتا ہُوں کہ بیٹا اَپنے آپ کُچھ نہیں کر سَکتا۔ وہ وُہی
کرتا ہے جو وہ اَپنے باپ کو کرتے دیکھتا ہے 20 کیونکہ
باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے اَور اَپنے سارے کام اُسے دِکھاتا
ہے۔ تُمہیں حیرت ہوگی کہ وہ اِن سے بھی بڑے بڑے کام
اُسے دِکھائے گا۔ 21 کیونکہ جِس طرح باپ مُردوں کو
زندہ کرتا ہے اَور زندگی بخشتا ہے اُسی طرح بیٹا بھی جسے
چاہتا ہے اُسے زندگی بخشتا ہے۔ 22 باپ کسی کی عدالت
نہیں کرتا بَلکہ اُس نے عدالت کا سارا اِختیار بیٹے کو سونپ
دیا ہے، 23 تاکہ سَب لوگ بیٹے کو بھی وُہی عزّت دیں
جو وہ باپ کو دیتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزّت نہیں کرتا وہ
باپ کی بھی جِس نے بیٹے کو بھیجا ہے، عزّت نہیں کرتا۔
24 ”میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں کہ جو کوئی میرا کلام سُن
کر میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اَبدی زندگی اُسی کی
ہے اَور اُس پر سزا کا حُکم نہیں ہوتا بَلکہ وہ موت سے بچ کر
زندگی میں داخل ہو گیا۔“ (aiōnios g166) 25 میں تُم سے سچ
کہتا ہُوں کہ وہ وقت آ رہا ہے بَلکہ آ چُکا ہے جَب مُردے
خُدا کے بیٹے کی آواز سُنیں گے اَور اُسے سُن کر زندگی حاصل
کریں گے۔ 26 کیونکہ جَیسے باپ اَپنے آپ میں زندگی رکھتا
ہے وَیسے ہی باپ نے بیٹے کو بھی اَپنے میں زندگی رکھنے کا
شرف بخشا ہے۔ 27 بَلکہ باپ نے عدالت کرنے کا اِختیار
بیٹے کو بخش دیا ہے کیونکہ وہ اِبن آدمؔ ہیں۔ 28 ”اِن باتوں
پر تعجُّب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے جَب سارے
مُردے اُس کی آواز سُنیں گے اَور قبروں سے باہر نکل آئیں
گے 29 جنہوں نے نیکی کی ہے وہ زندگی کی قیامت کے لِئے
جائیں گے اَور جنہوں نے بدی کی ہے وہ قیامت کی سزا
پائیں گے۔ 30 میں اَپنے آپ کُچھ نہیں کر سَکتا۔ جَیسا سُنتا
ہُوں فیصلہ دیتا ہُوں اَور میرا فیصلہ برحق ہوتا ہے کیونکہ
مَیں اَپنی مرضی کا نہیں بَلکہ اَپنے بھیجنے والے کی مرضی کا
طالب ہُوں۔ 31 ”اگر مَیں اَپنی گواہی خُود ہی دُوں تو میری

گواھی برحق نہیں۔ 32 لیکن ایک اَور ھے جو میرے حق
میں گواھی دیتاھے اَور مَیں جانتا ھُوں کہ میرے بارے
میں اُس کی گواھی برحق ھے۔ 33 ”تُم نے حضرت یُوحنّا
کے پاس پیغام بھیجا اَور اُنہُوں نے سچّائی کی گواھی دی۔
34 میں اَپنے بارے میں اِنسان کی گواھی منظُور نہیں کرتا
لیکن اِن باتوں کا ذِکر اِس لِئے کرتا ھُوں کہ تُم نَجات پاؤ۔
35 یُوحنّا ایک چراغ تھے جو جَلے اَور رَوشنی دینے لگے اَور
تُم نے کُچھ عرصہ کے لِئے اُن ھی کی رَوشنی سے فیض پانا
بہتر سمجھا۔ 36 ”میرے پاس حضرت یُوحنّا کی گواھی سے
بڑی گواھی مَوجُود ھے کیونکہ جو کام خُدا نے مُجھے اَنجام
دینے کے لِئے سونپے ھیں اَور جنہیں میں اَنجام دے رہا ھُوں
وہ میرے گواہ ھیں کہ مُجھے باپ نے بھیجا ھے۔ 37 اَور
باپ جنہوں نے مُجھے بھیجا ھے، خُود اُن ھی نے میرے
حق میں گواھی دی ھے۔ تُم نے نہ تو کبھی اُن کی آواز
سُنی ھے نہ ھی اُن کی صورت دیکھی ھے۔ 38 نہ ھی اُن کا
کلام تمہارے دِلوں میں قائِم رہتاھے۔ کیونکہ جسے باپ
نے بھیجا ھے تُم اُن کا یقین نہیں کرتے۔ 39 تُم کِتاب مُقدّس
کا بڑا گہرا مطالعہ کرتے ھو کیونکہ تُم سمجھتے ھو کہ اُس
میں تُمہیں اَبدی زندگی ملے گی۔ یہی کِتاب مُقدّس میرے
حق میں گواھی دیتی ھے۔ (aiōnios g166) 40 پھر بھی تُم
زندگی پانے کے لِئے میرے پاس آنے سے اِنکار کرتے ھو۔
41 ”میں آدمیوں کی تعریف کا مُحتاج نہیں، 42 کیونکہ مُجھے
مَعلُوم ھے کہ تمہارے دِلوں میں خُدا کے لِئے کوئی مَحبّت
نہیں۔ 43 میں اَپنے باپ کے نام سے آیا ھُوں اَور تُم مُجھے قبُول
نہیں کرتے لیکن اگر کوئی اَپنے ھی نام سے آئے تو تُم اُسے
قبُول کر لوگے۔ 44 تُم ایک دُوسرے سے عزّت پانا چاھتے
ھو اَورجو عزّت واحد خُدا کی طرف سے ملتی ھے اُسے
حاصل کرنا نہیں چاھتے، تُم کیسے ایمان لا سکتے ھو؟ 45 ”یہ
مت سمجھو کہ میں باپ کے سامنے تُمہیں مُجرم ٹھہراؤں گا۔
تُمہیں مُجرم ٹھہرانے والا تو حضرت مَوشہ ھیں جِس سے
تمہاری اُمّیدیں وابستہ ھیں۔ 46 اگر تُم حضرت مَوشہ کا یقین
کرتے ھو تو میرا بھی کرتے، اِس لِئے کہ حضرت مَوشہ نے
میرے بارے میں لِکھّا ھے 47 لیکن جَب تُم حضرت مَوشہ
کی لکھی ھوئی باتوں کا یقین نہیں کرتے تو میرے مُنہ سے
نکلی ھوئی باتوں کا کیسے یقین کروگے؟“

6 کُچھ دیر بعد یِسوعؔ کشتی کے ذریعہ گلِیل کی جھیل
یعنی تبریاسؔ کی جھیل کے اُس پار چلے گئے۔ 2 لوگوں
کا ایک بڑا ھُجوم اُن کے پیچھے چل رہاتھا کیونکہ وہ لوگ
بیماریوں کو شفا دینے کے لِئے معجزے جو یِسوعؔ نے کِئے
تھے، دیکھ چُکے تھے۔ 3 یِسوعؔ اَپنے شاگردوں کے ساتھ
ایک پہاڑی پر جا بیٹھے۔ 4 یہُودیوں کی عیدِفسح نزدیک
تھی۔ 5 جَب یِسوعؔ نے نظر اُٹھائی تو ایک بڑے ھُجوم کو اَپنی
طرف آتے دیکھا۔ یِسوعؔ نے فِلِپُّسؔ سے فرمایا،”ھم اِن لوگوں
کے کھانے کے لِئے روٹیاں کہاں سے مول لائیں؟“ 6 یِسوعؔ
نے محض آزمانے کے لِئے اُنہیں یہ فرمایا تھا کیونکہ خُداوؔند
نے پہلے ھی سے سوچ رکھا تھا کہ وہ کیا کرنے والے
ھیں۔ 7 فِلِپُّسؔ نے خُداوؔند کو جَواب دیا،”اِن لوگوں کے
کھانے کے لِئے روٹیاں مول لینے کے لِئے دو سَو دینار بھی
ھُوں تو کافی نہ ھوں گے کہ ھر ایک کو تھوڑی مقدار میں
مِل جائے۔“ 8 یِسوعؔ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد،
اَندریاسؔ جو شمعُونؔ پطرس کا بھائی تھا، بول اُٹھے، 9 ”یہاں
ایک لڑکا ھے جِس کے پاس جَو کی پانچ چُھوٹی روٹیاں
اَور دو چُھوٹی مچھلیاں ھیں، لیکن اِن سے اِتنے لوگوں کا
کیا ھوگا؟“ 10 یِسوعؔ نے فرمایا،”لوگوں کو بِٹھا دو۔“وھاں
کافی گھاس تھی چنانچہ وہ لوگ (جو پانچ ھزار کے قریب
تھے نیچے بیٹھ گئے۔) 11 یِسوعؔ نے وہ روٹیاں ھاتھ میں لے
کر، خُدا کا شُکر اَدا کیا اَور بیٹھے ھوئے لوگوں میں اُن کی
ضرورت کے مُطابق تقسیم کیا۔ اِسی طرح خُداوؔند نے مچھلیاں
بھی تقسیم کر دیں۔ 12 جَب لوگ پیٹ بھرکرکھا چُکے تو
یِسوعؔ نے اَپنے شاگردوں سے فرمایا،”بچے ھوئے ٹُکڑوں کو
جمع کر لو۔ کُچھ بھی ضائع نہ ھونے پائے۔“ 13 پس اُنہوں
نے جَو کی روٹیوں کے بچے ھوئے ٹُکڑوں کو جمع کیا اَور

اُن سے بَارہ ٹوکریاں بھر لیں۔ 14 جَب لوگوں نے یِسوعؔ کا
معجزہ دیکھا تو کہنے لگے،”یقیناً یہی وہ نبی ہیں جو دُنیا
میں آنے والے تھے۔“ 15 یِسوعؔ کو مَعلُوم ہو گیا تھا کہ وہ
اُنہیں بادشاہ بننے پر مجبُور کریں گے اِس لیٔے وہ تنہا ایک پہاڑ
کی طرف روانہ ہو گئے۔ 16 جَب شام ہوئی تو آپ کے
شاگرد جھیل پر پہُنچے 17 اَور کشتی میں بیٹھ کر جھیل
کے پار کَفرنحُومؔ کے لیٔے روانہ ہو گئے۔ اَندھیرا ہو چُکاتھا
اَور یِسوعؔ اُن کے درمیان میں نہ تھے۔ 18 ہَوا مُخالف ہونے
کی وجہ سے اَچانک آندھی چلی اَور جھیل میں مَوجیں اُٹھنے
لگیں۔ 19 پس جَب وہ کشتی کو کھیتے کھیتے قریب پانچ یا
چھ کِلو مِیٹر آگے نکل گئے، تَب اُنہُوں نے یِسوعؔ کو پانی پر
چلتے ہوئے اَور کشتی کی طرف آتے دیکھا اَور وہ نہایت ہی
خوفزدہ ہو گئے۔ 20 لیکن یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا،”خوف
نہ کرو، میں ہُوں۔“ 21 شاگردوں نے یِسوعؔ کو کشتی میں
سوار کر لیا اَور اُن کی کشتی اُسی وقت دُوسرے کنارے جا
پہُنچی جہاں شاگرد جانا چاہتے تھا۔ 22 اگلے دِن اُس ہُجوم
نے جو جھیل کے پار کھڑا تھا دیکھا کہ وہاں صِرف ایک
ہی کشتی ہے، وہ سمجھ گئے کہ یِسوعؔ اَپنے شاگردوں کے
ساتھ کشتی پر سوار نہیں ہوئے تھے اَور آپ کے شاگرد آپ
کے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ 23 تَب تبریاسؔ کی طرف سے
کُچھ کشتیاں وہاں کنارے آلگیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں
خُداوؔند نے شُکر اَدا کرکے لوگوں کو روٹی کھِلائی تھی۔
24 جَب لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو یِسوعؔ ہی وہاں ہیں نہ اُن
کے شاگرد تو وہ خُود اُن کشتیوں میں بیٹھ کر یِسوعؔ کی
جُستُجو میں کَفرنحُومؔ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 25 تَب وہ
یِسوعؔ کو جھیل کے پار دیکھ کر پُوچھنے لگے،”ربّی، آپ
یہاں کب پہُنچے؟“ 26 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”میں تُم سے سچ
سچ کہتا ہُوں، تُم مُجھے اِس لیٔے نہیں ڈھونڈتے ہو، میرے
معجزے دیکھو بلَکہ اِس لیٔے کہ تُمہیں پیٹ بھر کھانے کو
روٹیاں مِلی تھیں۔ 27 اِس خُوراک کے لیٔے جو خَراب ہو
جاتی ہے دَوڑ دھوپ نہ کرو، بَلکہ اُس کے لیٔے جو اَبدی
زندگی تک باقی رہتی ہے، جو اِبن آدمؔ تُمہیں عطا کرے گا
کیونکہ خُدا باپ نے اُن پر مُہر کی ہے۔“ (aiōnios g166)
28 تَب اُنہُوں نے یِسوعؔ سے پُوچھا،”خُدا کے کام اَنجام دینے
کے لیٔے ہمیں کیا کرنا چاہئے؟“ 29 یِسوعؔ نے جَواب میں
فرمایا،”خُدا کا کام یہ ہے کہ جسے اُس نے بھیجا ہے
اُس پر ایمان لاؤ۔“ 30 تَب وہ خُداوؔند سے پُوچھنے لگے،”آپ
اَور کون سا معجزہ دِکھائیں گے جسے دیکھ کر ہم آپ پر
ایمان لائیں؟ 31 ہمارے آباؤاَجداد نے بیابان میں مَنّ کھایا،
جَیسا کہ کِتاب مُقدّس میں لِکھّا ہے:’خُدا نے اُنہیں کھانے
کے لیٔے آسمان سے روٹی بھیجی۔‘“ 32 یِسوعؔ نے اُن سے
فرمایا،”میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں، وہ روٹی تُمہیں آسمان
سے حضرت مَوشہ نے تو نہیں دی، بَلکہ میرے باپ نے
تُمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دی ہے۔ 33 کیونکہ خُدا کی
روٹی وہ ہے جو آسمان سے اُترتی ہے اَور دُنیا کو زندگی عطا
کرتی ہے۔“ 34 اُنہُوں نے کہا،”جَناب یہ روٹی ہمیں ہمیشہ
عطا ہوتی رہے۔“ 35 یِسوعؔ نے فرمایا،”زندگی کی روٹی میں
ہی ہُوں، جو میرے پاس آئے گا کبھی بھُوکا نہ رہے گا
اَورجو مُجھ پر ایمان لائے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ 36 لیکن
مَیں تُم سے کہہ چُکا ہُوں کہ تُم نے مُجھے دیکھ لیا ہے پھر
بھی ایمان نہیں لاتے۔ 37 وہ سَب جو باپ مُجھے دیتاہے وہ
مُجھ تک پہُنچ جائے گا اَورجو کوئی میرے پاس آئے گا،
میں اُسے اَپنے سے جُدا نہ ہونے دُوں گا۔ 38 کیونکہ مَیں
آسمان سے اِس لیٔے نہیں اُترا کہ اَپنی مرضی پُوری کروں بلَکہ
اِس لیٔے کہ اَپنے بھیجنے والے کی مرضی پر عَمل کروں۔
39 اَور جِس نے مُجھے بھیجا ہے اُس کی مرضی یہ ہے کہ
میں اُن میں سے کسی کو ھاتھ سے نہ جانے دُوں جنہیں اُس
نے مُجھے دیا ہے بَلکہ سَب کو آخِری دِن پھر اُسے زندہ
کر دُوں۔ 40 کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو
کوئی بیٹے کو دیکھے اَور اُس پر ایمان لائے وہ اَبدی زندگی
پائے، اَور مَیں اُسے آخِری دِن پھر سے زندہ کروں۔“ (aiōnios
g166) 41 یِسوعؔ نے فرمایا تھا،”جو روٹی آسمان سے اُتری، میں

ہی ہُوں۔“یہ سُن کر یہُودی رہنماؤں نے اُن پر بُڑبُڑانا شروع
کر دیا۔ 42 وہ کہنے لگے،”کیا یہ یُوسیفؔ کا بیٹا یِسوعؔ نہیں،
جِس کے باپ اَور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اَب وہ یہ کیسے
کہتا ہے،’میں آسمان سے اُترا ہُوں‘؟“ 43 یِسوعؔ نے اُن سے
فرمایا،”آپس میں بُڑبُڑانا بند کرو، 44 میرے پاس کوئی نہیں
آسکتا جَب تک کہ باپ جِس نے مُجھے بھیجا ہے اُسے
کھینچ نہ لائے، اَور مَیں اُسے آخِری دِن پھر اُسے زندہ کر
دُوں گا۔ 45 نبیوں کے صحیفوں میں لِکھّا ہے:’خُدا اُن سَب
کو علم بخشے گا۔‘جو کوئی باپ کی سُنتا ہے اَور باپ سے
سیکھتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ 46 باپ کو کسی نے
نہیں دیکھا سِوائے اُس کے جو خُدا کی طرف سے ہے،
صِرف اُسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ 47 میں تُم سے سچ سچ
کہتا ہُوں کہ جو کوئی ایمان لاتا ہے، اَبدی زندگی اُس
کی ہے۔ (aiōnios g166) 48 زندگی کی روٹی میں ہی ہُوں۔
49 تمہارے باپ دادا نے بیابان میں مَنّ کھایا پھر بھی وہ مَر
گئے۔ 50 لیکن جو روٹی آسمان سے اُتری ہے یہاں مَوجُود
ہے تاکہ آدمی اُس روٹی میں سے کھائے اَور نہ مَرے۔
51 میں ہی وہ زندگی کی روٹی ہُوں جو آسمان سے اُتری ہے۔
اگر کوئی اِس روٹی میں سے کھائے گا تو وہ ہمیشہ زندہ
رہے گا۔ یہ روٹی میرا گوشت ہے جو میں ساری دُنیا کی
زندگی کے لِئے دُوں گا۔“ (aiōn g165) 52 یہُودی رہنماؤں میں
جھگڑا شروع ہو گیا اَور وہ کہنے لگے،”یہ آدمی ہمیں کیسے
اَپنا گوشت کھانے کے لِئے دے سَکتا ہے؟“ 53 یِسوعؔ نے
اُن سے فرمایا،”میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں کہ جَب تک تُم
اِبنِ آدمؔ کا گوشت نہ کھاؤ اَور اُس کا خُون نہ پیو، تُم میں
زندگی نہیں۔ 54 جو کوئی میرا گوشت کھاتا اَور میرا خُون
پیتا ہے اُس میں اَبدی زندگی ہے اَور مَیں اُسے آخِری دِن
پھر سے زندہ کروں گا۔ (aiōnios g166) 55 اِس لِئے کہ میرا
گوشت واقعی کھانے کی چیز ہے اَور میرا خُون واقعی پینے
کی چیز ہے۔ 56 جو کوئی میرا گوشت کھاتا اَور میرا خُون
پیتا ہے، مُجھ میں قائِم رہتا ہے اَور مَیں اُس میں۔ 57 میرا
باپ جِس نے مُجھے بھیجا ہے زندہ ہے اَور مَیں بھی باپ
کی وجہ سے زندہ ہُوں۔ اِسی طرح جو مُجھے کھائے گا وہ
میری وجہ سے زندہ رہے گا۔ 58 یہی وہ روٹی ہے جو
آسمان سے اُتری۔ تمہارے آباؤاَجداد نے مَنّ کھایا پھر بھی
مَر گئے لیکن جو اِس روٹی کو کھاتا ہے، ہمیشہ تک زندہ
رہے گا۔“ (aiōn g165) 59 یِسوعؔ نے یہ باتیں اُس وقت کہیں
جَب وہ کفرنحُومؔ شہر کے یہُودی عبادت گاہ میں تعلیم دے
رہے تھے۔ 60 یہ باتیں سُن کر یِسوعؔ کے بہت سے شاگرد
کہنے لگے،”یہ تعلیم بڑی سخت ہے۔ اِسے کون قبُول کر سَکتا
ہے؟“ 61 یِسوعؔ نے جان لیا کہ اُن کے شاگرد اِس بات پر
آپس میں بُڑبُڑا رہے ہیں لہٰذا خُداوندؔ نے اُن سے کہا،”کیا
تُمہیں میری باتوں سے ٹھیس پہُنچی ہے؟ 62 اگر تُم اِبنِ آدمؔ
کو اُوپر جاتے دیکھوگے جہاں وہ پہلے تھا! تو کیا ہوگا؟
63 رُوح زندگی بخشتی ہے، جِسم سے کوئی فائدہ نہیں جو
باتیں مَیں نے تُم سے کہی ہیں وہ رُوح اَور زندگی دونوں
سے پُر ہیں۔ 64 پھر بھی تُم میں بعض اَیسے ہیں جو ایمان
نہیں لائے۔“یِسوعؔ کو شروع سے علم تھا کہ اُن میں کون
ایمان نہیں لائے گا اَور کون اُنہیں پکڑوائے گا۔ 65 پھر یِسوعؔ
نے فرمایا،”اِسی لِئے مَیں نے تُم سے کہاتھا کہ میرے پاس
کوئی نہیں آتا جَب تک کہ باپ اُسے کھینچ نہ لائے۔“
66 اِس پر اُن کے کئی شاگرد یِسوعؔ کو چھوڑکر چلے گئے
اَور پھر اُن کے ساتھ نہ رہے۔ 67 ”تَب یِسوعؔ نے اُن بَارہ
شاگردوں سے پُوچھا، کیا تُم بھی مُجھے چھوڑ جانا چاہتے ہو؟“
68 شمعُونؔ پطرس نے آپ کو جَواب دیا،”اَے خُداوندؔ، ہم
کِس کے پاس جائیں؟ اَبدی زندگی کی باتیں تو آپ ہی کے
پاس ہیں۔ (aiōnios g166) 69 ہم ایمان لائے اَور جانتے ہیں
کہ آپ ہی خُدا کے قُدُّوس ہیں۔“ 70 یِسوعؔ نے جَواب
دیا،”مَیں نے تُم بَارہ کو چُن تو لیا ہے لیکن تُم میں سے ایک
شخص شیطان ہے!“ 71 (اُس کا مطلب شمعُونؔ اِسکریوتی کے
بیٹے یہُوداہؔ سے تھا، جو، اگرچہ اُن بَارہ شاگردوں میں سے
ایک، بعد میں یِسوعؔ کو پکڑوانے کو تھا۔)

7 اُس کے بعد، یِسوعؔ گلِیل میں اِدھر اُدھر مُسافرت
کرتے رہے۔ وہ صُوبہ یہُودیؔہ سے دُور ہی رہنا چاہتے تھے
کیونکہ وہاں یہُودی رہنما یِسوعؔ کے قتل کے فِراق میں تھے۔
2 اَور یہُودیوں کی خیموں کی عید نزدیک تھی۔ 3 خُداوؔند
کے بھائیوں نے آپ سے کہا،”یہاں سے نکل کر یہُودیؔہ چلے
جائیں، تاکہ آپ کے شاگرد یہ معجزے جو آپ نے کیٔے
ہیں دیکھ سکیں۔ 4 جو کوئی اَپنی شہرت چاہتاہے وہ
چھُپ کر کام نہیں کرتا۔ آپ جو یہ معجزے کرتے ہیں تو
خُود کو دُنیا پر ظاہر کر دیجئے۔“ 5 بات یہ تھی کہ خُداوؔند
کے بھائی بھی آپ پر ایمان نہ لائے تھے۔ 6 یِسوعؔ نے اُن سے
فرمایا،”یہ وقت میرے لیٔے مُناسب نہیں ہے، تمہارے لیٔے
تو ہر وقت مُناسب ہے۔ 7 دُنیا تُم سے عداوت نہیں رکھ
سکتی، لیکن مُجھ سے رکھتی ہے کیونکہ مَیں اُس کے بُرے
کاموں کی وجہ سے اُس کے خِلاف گواہی دیتا ہُوں۔ 8 تُم
لوگ عید کے جَشن میں چلے جاؤ۔ میں ابھی نہیں جاؤں
گا کیونکہ میرے جانے کا ابھی وقت پُورا نہیں ہُواہے۔“
9 یہ کہہ کر وہ گلِیل ہی میں ٹھہرے رہے۔ 10 تاہم، آپ
کے بھائی عید پر چلے گیٔے بَلکہ یِسوعؔ بھی عوامی طور پر نہیں
بَلکہ خُفیہ طور پر گیٔے۔ 11 وہاں عید میں یہُودی رہنما
یِسوعؔ کو ڈھونڈتے اَور پُوچھتے پھرتے تھے،”وہ کہاں ہیں؟“
12 لوگوں میں آپ کے بارے میں بڑی سرگوشیاں ہو رہی
تھیں۔ بعض کہتے تھے،”وہ ایک نیک آدمی ہے۔“بعض کا
کہنا تھا،”نہیں، وہ لوگوں کو گُمراہ کر رہاہے۔“ 13 لیکن
یہُودیوں کے خوف کی وجہ سے کوئی یِسوعؔ کے بارے میں
کھُل کر بات نہیں کرتا تھا۔ 14 جَب عید کے آدھے دِن
گزر گئے تو یِسوعؔ بیت المُقدّس میں گیٔے اَور وہیں تعلیم دینے
لگے۔ 15 یہُودی رہنما متعجّب ہوکر کہنے لگے،”اِس
آدمی نے بغیر سیکھے اِتنا علم کہاں سے حاصل کر لیا؟“
16 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”یہ تعلیم میری اَپنی نہیں ہے بَلکہ یہ
مُجھے میرے بھیجنے والے کی طرف سے حاصل ہوئی ہے۔
17 اگر کوئی خُدا کی مرضی پر چلنا چاہے تو اُسے مَعلُوم ہو
جائے گا کہ یہ تعلیم خُدا کی طرف سے ہے یا میری اَپنی
طرف سے۔ 18 جو کوئی اَپنی طرف سے کُچھ کہتاہے وہ
اَپنی عزّت کا بھُوکا ہوتاہے لیکن جو اَپنے بھیجنے والے کی
عزّت چاہتاہے وہ سچّا ہے اَور اُس میں ناراستی نہیں پائی
جاتی۔ تُم کیوں مُجھے ہلاک کرنے پرتُلے ہوئے ہو؟ 19 کیا
حضرت مَوشہ نے تُمہیں شَریعت نہیں دی؟ لیکن تُم میں
سے کوئی اُس پر عَمل نہیں کرتا۔ آخِر تُم مُجھے کیوں قتل
کرنا چاہتے ہو؟“ 20 لوگوں نے کہا،”آپ میں ضرُور کوئی
بدرُوح ہے، کون آپ کو قتل کرنا چاہتاہے؟“ 21 یِسوعؔ
نے اُن سے فرمایا،”مَیں نے ایک معجزہ کیا اَور تُم تعجُّب
کرنے لگے۔ 22 لیکن پھر بھی، حضرت مَوشہ نے تُمہیں
ختنہ کرنے کا حُکم دیا ہے (حالانکہ تمہارے آباؤاَجداد نے
حضرت مَوشہ سے کہیں پہلے یہ رسم شروع کر دی تھی)،
تُم سَبت کے دِن لڑکے کا ختنہ کرتے ہو۔ 23 اگر لڑکے کا
ختنہ سَبت کے دِن کیا جا سَکتا ہے تاکہ حضرت مَوشہ
کی شَریعت قائم رہے تو اگر مَیں نے ایک آدمی کو سَبت
کے دِن بالکُل تندرست کر دیا تو تُم مُجھ سے کِس لیٔے خفا
ہو گئے؟ 24 آپ کا اِنصاف ظاہری نہیں، بَلکہ سچّائی کی
بُنیاد پر مَبنی ہو۔“ 25 تَب یروشلیمؔ کے بعض لوگ پُوچھنے
لگے،”کیا یہ وُہی آدمی تو نہیں جِس کے قتل کی کوشش ہو
رہی ہے؟ 26 دیکھو وہ، اعلانیہ تعلیم دیتے ہیں، اَور اُنہیں
کوئی کُچھ نہیں کہتا۔ کیا ہمارے حاکموں نے بھی تسلیم
کر لیا ہے کہ یہی المسیح ہیں؟ 27 ہم جانتے ہیں کہ یہ
آدمی کہاں کا ہے، لیکن جَب المسیح کا ظہُور ہوگا، تو
کسی کو اِس کا علم تک نہ ہوگا کہ وہ کہاں کے ہیں۔“
28 پھر، یِسوعؔ نے بیت المُقدّس میں تعلیم دیتے وقت، پُکار کر
فرمایا،”ہاں، تُم مُجھے جانتے ہو، اَور یہ بھی جانتے ہو کہ
میں کہاں سے ہُوں۔ میں اَپنی مرضی سے نہیں آیا، لیکن
جِس نے مُجھے بھیجا ہے وہ سچّا ہے۔ تُم اُنہیں نہیں جانتے
ہو، 29 لیکن مَیں اُنہیں جانتا ہُوں کیونکہ مَیں اُن کی طرف
سے ہُوں اَور اُن ہی نے مُجھے بھیجا ہے۔“ 30 اِس پر اُنہوں

نے حُضُور المسیح کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کوئی
اُن پر ہاتھ نہ ڈال سَکا، کیونکہ ابھی حُضُور المسیح کا وقت
نہیں آیاتھا۔ 31 مگر، ہُجوم میں سے کئی لوگ حُضُور المسیح پر
ایمان لائے۔ لوگ کہنے لگے،"جَب المسیح آئیں گے، تو کیا
وہ اِس آدمی سے زِیادہ معجزے دِکھائیں گے؟" 32 جَب
فریسیوں نے لوگوں کو یِسوعؔ کے بارے میں سرگوشیاں
کرتے دیکھا تو اُنہُوں نے اَور اہم کاہِنوں نے بیت المُقدّس
کے سپاہیوں کو بھیجا کہ یِسوعؔ کو گِرفتار کر لیں۔ 33 یِسوعؔ
نے فرمایا،"میں کُچھ عرصہ تک تمہارے پاس ہُوں۔ پھر میں
اَپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ 34 تُم مُجھے تلاش
کروگے لیکن پا نہ سکوگے اَور جہاں میں ہُوں تُم وہاں نہیں
آسکتے۔" 35 یہُودی رہنما آپَس میں کہنے لگے،"یہ آدمی
کہاں چلا جائے گا کہ ہم اُسے تلاش نہ کرپائیں گے؟ کیا
یہ شخص ہمارے لوگوں کے پاس جو یُونانیوں کے درمیان
مُنتشر ہوکر رہتے ہیں، اُن یُونانیوں کو بھی تعلیم دے گا؟
36 جَب یِسوعؔ نے کہاتھا،'تُم مُجھے تلاش کروگے لیکن پا نہ
سکوگے اَور جہاں میں ہُوں تُم وہاں نہیں آسکتے؟'" 37 عید
کے آخِری اَور خاص دِن یِسوعؔ کھڑے ہوئے اَور بہ آواز
بُلند فرمایا،"اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اَور پیئے۔
38 جو کوئی مُجھ پر ایمان لاتا ہے، جَیسا کہ کِتاب مُقدّس میں
لِکھّا ہے: اُس کے اَندر سے آبِ حیات کے دریا جاری ہو
جائیں گے۔" 39 اِس سے اُن کا مطلب تھا پاک رُوح جو
یِسوعؔ پر ایمان لانے والوں پر نازل ہونے والا تھا۔ وہ پاک
رُوح ابھی تک نازل نہ ہُوا تھا کیونکہ یِسوعؔ ابھی اَپنے آسمانی
جلال کو نہ پہُنچے تھے۔ 40 یہ باتیں سُن کر، بعض لوگ
کہنے لگے،"یہ آدمی واقعی نبی ہے۔" 41 بعض نے کہا،"یہ
المسیح ہیں۔"بعض نے یہ بھی کہا،"المسیح گلیل سے کیسے
آسکتے ہیں؟ 42 کیا کِتاب مُقدّس میں نہیں لِکھّا کہ المسیح
داوٗدؔ کی نَسل سے ہوں گے اَور بیت لحمؔ میں پیدا ہوں
گے، جِس شہر کے داوٗدؔ تھے؟" 43 پس لوگوں میں یِسوعؔ
کے بارے میں اِختلاف پیدا ہو گیا۔ 44 اُن میں سے بعض
حُضُور المسیح کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن کسی نے اُن پر
ہاتھ نہ ڈالا۔ 45 چنانچہ بیت المُقدّس کے سپاہی، فریسیوں
اَور اہم کاہِنوں کے پاس لَوٹے، تو اُنہُوں نے سپاہیوں
سے پُوچھا،"تُم حُضُور المسیح کو گِرفتار کرکے کیوں نہیں
لائے؟" 46 سپاہیوں نے کہا،"جَیسا کلام حُضُور المسیح
کے مُنہ سے نکلتا ہے وَیسا کسی بشر کے مُنہ سے کبھی نہیں
سُنا۔" 47 فریسیوں نے کہا،"کیا تُم بھی اُس کے فریب میں آ
گئے؟ 48 کیا کسی حاکم یا کاہِنوں اَور فریسیوں میں سے بھی
کوئی حُضُور المسیح پر ایمان لایا ہے؟ 49 کوئی نہیں! لیکن
عام لوگ شَریعت سے قطعاً واقف نہیں، اُن پر لعنت ہو۔"
50 نِیکُودِیمُسؔ جو یِسوعؔ سے پہلے مِل چُکاتھا اَورجو اُن ہی
میں سے تھا، پُوچھنے لگا، 51 "کیا ہماری شَریعت کسی شخص
کو مُجرم ٹھہراتی ہے جَب تک کہ اُس کی بات نہ سُنی
جائے اَور یہ نہ مَعلُوم کر لیا جائے کہ اُس نے کیاکِیا ہے؟"
52 اُنہُوں نے جَواب دیا،"کیا تُم بھی گلیل کے ہو؟ تحقیق کرو
اَور دیکھو کہ گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا۔"
53 تَب وہ اُٹھے اَور اَپنے اَپنے گھر چلے گئے۔

8 اِس کے بعد یِسوعؔ کوہِ زَیتُون پر چلے گئے۔ 2 صُبح
ہوتے ہی وہ بیت المُقدّس میں پھر واپس ہوئے اَور سَب
لوگ یِسوعؔ کے پاس جمع ہو گئے۔ تَب آپ بیٹھ گئے اَور اُنہیں
تعلیم دینے لگے۔ 3 اِتنے میں شَریعت کے عالِم اَور فرِیسی
ایک عورت کو لائے جو زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی تھی۔
اُنہُوں نے اُسے درمیان میں کھڑا کر دیا 4 اَور یِسوعؔ سے
فرمایا،"اَے اُستاد، یہ عورت زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے۔
5 حضرت مَوشہ نے توریت میں ہمیں حُکم دیا ہے کہ اَیسی
عورتوں کو سنگسار کریں، اَب آپ کیا فرماتے ہیں؟" 6 وہ
یہ سوال محض یِسوعؔ کو آزمانے کے لِئے پُوچھ رہے تھے
تاکہ کسی سبب سے یِسوعؔ پر اِلزام لگاسکیں۔ لیکن یِسوعؔ
جُھک کر اَپنی اُنگلی سے زمین پر کُچھ لکھنے لگے۔ 7 جَب
وہ سوال کرنے سے باز نہ آئے تو یِسوعؔ نے سَر اُٹھا کر اُن سے
فرمایا،"تُم میں جو بے گُناہ ہو وُہی اِس عورت پر سَب سے

پہلے پتّھر پھینکے۔“ 8 وہ پھر جُھک کر زمین پر کُچھ لکھنے
لگے۔ 9 یہ سُن کر، سَب چُھوٹے بڑے ایک ایک کر، چلے
گیٔے، یہاں تک کہ یِسوعؔ وہاں تنہا رہ گیٔے۔ 10 تَب یِسوعؔ
نے سیدھے ہوکر عورت سے پُوچھا،”اَے عورت، یہ لوگ
کہاں چلے گیٔے؟ کیا کسی نے تُجھے مُجرم نہیں ٹھہرایا؟“
11 اُس عورت نے کہا،”اَے آقا، کسی نے نہیں۔“یِسوعؔ
نے اعلانیہ فرمایا،”تَب میں بھی تُجھے مُجرم نہیں ٹھہراتا، اَب
جاؤ اَور آئندہ گُناہ نہ کرنا۔“ 12 جَب یِسوعؔ نے لوگوں سے پھر
خِطاب کیا،”میں دُنیا کا نُور ہُوں، جو کویٔی میری پیروی
کرتا ہے وہ کبھی تاریکی میں نہ چلے گا بَلکہ زندگی کا نُور
پاۓ گا۔“ 13 فریسیوں نے حُضُور المسیح سے سخت لہجے
میں کہا،”آپ اَپنے ہی حق میں اَپنی گواہی دیتے ہیں،
آپ کی گواہی قابلِ قبُول نہیں ہے۔“ 14 یِسوعؔ نے جَواب
دیا،”اگر مَیں اَپنے ہی حق میں گواہی دیتا ہُوں، تو بھی
میری گواہی قابلِ قبُول نہیں ہے، کیونکہ مَیں جانتا ہُوں
کہ کہاں سے آیا ہُوں اَور کہاں جاتا ہُوں۔ لیکن تُمہیں کیا
مَعلُوم کہ میں کہاں سے آیا ہُوں اَور کہاں جاتا ہُوں۔ 15 تُم
صورت دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کے بارے میں
فیصلہ نہیں کرتا۔ 16 لیکن اگر مَیں فیصلہ کروں بھی، تو میرا
فیصلہ، صحیح ہوگا، کیونکہ مَیں تنہا نہیں۔ بَلکہ باپ جِس
نے مُجھے بھیجا ہے، میرے ساتھ ہیں۔ 17 تمہاری توریت
میں بھی لِکھّا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی سچّی ہوتی ہے۔
18 میں ہی اَپنی گواہی نہیں دیتا؛ بَلکہ میرا دُوسرا گواہ آسمانی
باپ ہے جنہوں نے مُجھے بھیجا ہے۔“ 19 تَب اُنہُوں نے
حُضُور المسیح سے پُوچھا،”آپ کا باپ کہاں ہے؟“یِسوعؔ نے
جَواب دیا،”تُم مُجھے نہیں جانتے ہو نہ ہی میرے باپ کو،
اگر تُم نے مُجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے۔“
20 حُضُور المسیح نے یہ باتیں بیت المُقدّس میں تعلیم دیتے
وقت اُس جگہ کہیں جہاں نذرانے جمع کیٔے جاتے تھے۔
لیکن کسی نے آپ کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی حُضُور المسیح کا
وقت نہ آیاتھا۔ 21 یِسوعؔ نے پھر فرمایا،”میں جا رہا ہُوں اَور
تُم مُجھے ڈھونڈوگے، اَور اَپنے گُناہ میں مرجاؤگے۔ جہاں میں
جا رہا ہُوں تُم وہاں نہیں آسکتے۔“ 22 اِس پر یہُودی رہنما
کہنے لگے،”کیا وہ خُود کو مار ڈالے گا؟ کیا وہ اِسی لئے یہ
کہتاہے،’جہاں میں جاتا ہُوں، تُم نہیں آسکتے‘؟“ 23 یِسوعؔ نے
اُن سے فرمایا،”تُم نیچے کے یعنی زمین کے ہو، میں اُوپر کا
ہُوں۔ تُم اِس دُنیا کے ہو، میں اِس دُنیا کا نہیں ہُوں۔ 24 مَیں
نے تُمہیں بتا دیا کہ تُم اَپنے گُناہ میں مرجاؤگے، اگر تُمہیں
یقین نہیں آتا کہ وُہی تو میں ہُوں تو تُم واقعی اَپنے گُناہوں میں
مرجاؤگے۔“ 25 اُنہُوں نے پُوچھا،”آپ کون ہیں؟“یِسوعؔ نے
جَواب دیا،”میں وُہی ہُوں جو شروع سے تُمہیں کہتا آ رہا
ہُوں، 26 مُجھے تمہارے بارے میں بہت کُچھ کہنا اَور فیصلہ
کرنا ہے۔ لیکن میرا بھیجنے والا سچّا ہے اَورجو کُچھ مَیں نے
اُن سے سُنا ہے وُہی دُنیا کو بتاتا ہُوں۔“ 27 وہ نہ سمجھے
کہ وہ اُنہیں اَپنے آسمانی باپ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔
28 لٰہذا یِسوعؔ نے فرمایا،”جَب تُم اِبنِ آدمؔ کو اُوپر اُٹھاؤگے
یعنی صلیب پر چڑھاؤگے تَب تُمہیں مَعلُوم ہوگا کہ وُہی تو
میں ہُوں۔ میں اَپنی طرف سے کُچھ نہیں کرتا بَلکہ وُہی کہتا
ہُوں جو باپ نے مُجھے سِکھایا ہے۔ 29 اَور جنہوں نے مُجھے
بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہیں؛ اُنہُوں نے مُجھے اکیلا نہیں
چھوڑا، کیونکہ مَیں ہمیشہ وُہی کرتا ہُوں جو باپ کو پسند
آتا ہے۔“ 30 یِسوعؔ یہ باتیں کہہ ہی رہے تھے کہ بہت سے
لوگ اُن پر ایمان لے آئے۔ 31 یِسوعؔ نے اُن یہُودیوں سے
جو آپ پر ایمان لائے تھے کہا،”اگر تُم میری تعلیم پر قائم
رہوگے، تو حقیقت میں میرے شاگرد ہوگے۔ 32 تَب تُم
سچّائی کو جان جاؤگے، اَور سچّائی تُمہیں آزاد کرے گی۔“
33 اُنہُوں نے اُن کو جَواب دیا،”ہم اَبراہامؔ کی اَولاد ہیں
اَور کبھی کسی کی غُلامی میں نہیں رہے۔ آپ کیسے کہتے
ہیں کہ ہم آزاد کر دیٔے جایٔیں گے؟“ 34 یِسوعؔ نے جَواب
دیا،”میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں کہ جو کویٔی گُناہ کرتا ہے
وہ گُناہ کا غُلام ہے 35 غُلام مالک کے گھر میں ہمیشہ نہیں
رہتا لیکن بیٹا ہمیشہ رہتاہے۔ (aiōn g165) 36 اِس لئے اگر

بیٹا تُمہیں آزاد کرے گا، تو تُم حقیقت میں آزاد ہو جاؤگے۔
37 میں جانتا ہُوں کہ تُم اَبراہامؔ کی اَولاد ہو، پھر بھی تُم مُجھے
مار ڈالنا چاہتے ہو کیونکہ تمہارے دِلوں میں میرے کلام
کے لِئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ 38 مَیں نے جو کُچھ باپ کے
یہاں دیکھاہے، تُمہیں بتا رہا ہُوں، اَور تُم بھی وُہی کرتے ہو
جو تُم نے اَپنے باپ سے سُنا ہے۔“ 39 اُنہُوں نے کہا،”ہمارا
باپ تو اَبراہامؔ ہے۔“یِسوعؔ نے فرمایا،”اگر تُم اَبراہامؔ کی اَولاد
ہوتے، تو تُم اَبراہامؔ کے سے کام بھی کرتے۔ 40 لیکن اَب
تو تُم مُجھ جَیسے آدمی کو ہلاک کر دینے کا اِرادہ کر چُکے
ہو جِس نے تُمہیں وہ حق باتیں بَیان کیں جو مَیں نے خُدا
سے سُنی۔ اَبراہامؔ نے اَیسی باتیں نہیں کیں۔ 41 تُم وُہی کُچھ
کرتے ہو جو تمہارا باپ کرتا ہے۔“اُنہُوں نے کہا،”ہم
ناجائز اَولاد نہیں، ہمارا باپ ایک ہی ہے یعنی وہ خُود خُدا
ہے۔“ 42 یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا،”اگر خُدا تمہارا باپ ہوتا
تو تُم مُجھ سے مَحَبّت کرتے، اِس لِئے کہ میرا ظہُور خُدا
میں سے ہُواہے اَور اَب مَیں یہاں مَوجُود ہُوں۔ میں اَپنے
آپ نہیں آیا، بَلکہ باپ نے مُجھے بھیجا ہے۔ 43 تُم میری
باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اِس لِئے کہ میرے کلام کو سُنتے
نہیں۔ 44 تُم اَپنے باپ یعنی اِبلیس کے ہو، اَور اَپنے باپ کی
مرضی پر چلنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خُون کرتا آیا
ہے، اَور کبھی سچّائی پر قائِم نہیں رہا کیونکہ اُس میں نام کو
بھی سچّائی نہیں۔ جَب وہ جھُوٹ بولتا ہے تو، اَپنی ہی سی
کہتاہے، کیونکہ وہ جھُوٹا ہے اَور جھُوٹ کا باپ ہے۔
45 چونکہ میں سچ بولتا ہُوں، اِس لِئے تُم میرا یقین نہیں کرتے!
46 تُم میں کوئی ہے جو مُجھ میں گُناہ ثابت کر سکے؟ اگر مَیں
سچ بولتا ہُوں تو تُم میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ 47 جو خُدا کا
ہوتاہے وہ خُدا کی باتیں سُنتا ہے۔ چونکہ تُم خُدا کے نہیں
ہو اِس لِئے خُدا کی نہیں سُنتے۔“ 48 یہُودی رہنماؤں نے
یِسوعؔ کو جَواب دیا،”اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ سامری ہیں
اَور آپ میں بدرُوح ہے تو کیا یہ ٹھیک نہیں؟“ 49 یِسوعؔ نے
فرمایا،”مُجھ میں بدرُوح نہیں، مگر میں اَپنے باپ کی عزّت
کرتا ہُوں اَور تُم میری بے عزّتی کرتے ہو۔ 50 لیکن مَیں اَپنا
جلال نہیں چاہتا، ہاں ایک ہے جو چاہتاہے، اَور وُہی
فیصلہ کرتا ہے۔ 51 میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں کہ جو کوئی
میرے کلام پر عَمل کرتا ہے وہ موت کا مُنہ تک کبھی نہ
دیکھے گا۔“ (aiōn g165) 52 یہ سُن کر یہُودی چہک کر
کہنے لگے،”اَب ہمیں مَعلُوم ہو گیا کہ آپ میں بدرُوح ہے۔
حضرت اَبراہامؔ مَر گئے اَور دُوسرے نبی بھی۔ مگر آپ کہتے
ہو کہ جو کوئی میرے کلام پر عَمل کرے گا وہ موت کا
مُنہ کبھی نہ دیکھے گا۔ (aiōn g165) 53 کیا آپ ہمارے باپ
حضرت اَبراہامؔ سے بھی بڑے ہیں۔ وہ مرگئے اَور نبی بھی مَر
گئے۔ آپ اَپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟“ 54 یِسوعؔ نے جَواب
دیا،”اگر مَیں اَپنا جلال آپ ظاہر کروں تو وہ جلال کِس
کام کا؟ میرا باپ جسے تُم اَپنا خُدا کہتے ہو، وُہی میرا جلال
ظاہر کرتا ہے۔ 55 تُم اُنہیں جانتے مگر میں جانتا ہُوں، اگر
کہُوں کہ نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھُوٹا ٹھہروں گا، لیکن
مَیں اُنہیں جانتا ہُوں اَور اُن کے کلام پر عَمل کرتا ہُوں۔
56 تمہارے باپ اَبراہامؔ کو بڑی خُوشی سے میرے اِس دِن
کے دیکھنے کی تمنّا تھی، اَبراہامؔ نے وہ دِن دیکھ لیا اَور
خُوش ہو گئے۔“ 57 یہُودی رہنما نے یِسوعؔ پر طنز کیا،”آپ
کی عمر تو ابھی پچاس سال کی بھی نہیں ہوئی، اَور آپ نے
اَبراہامؔ کو دیکھاہے!“ 58 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”میں تُم سے
سچ سچ کہتا ہُوں، اَبراہامؔ کے پیدا ہونے سے پہلے میں ہُوں۔“
59 اِس پر اُنہُوں نے پتّھر اُٹھائے کہ آپ کو سنگسار کریں،
لیکن یِسوعؔ خُود، اُن کی نظروں سے بچ کر بیت الْمُقدّس سے
نکل گئے۔

9 جَب یِسوعؔ جا رہے تھے تو آپ نے ایک آدمی کو
دیکھا جو پیدائشی اَندھا تھا۔ 2 آپ کے شاگردوں نے یِسوعؔ
سے پُوچھا،”ربّی، کِس نے گُناہ کیا تھا، اِس نے یا اِس کے
والدین نے جو یہ اَندھا پیدا ہُوا؟“ 3 یِسوعؔ نے فرمایا،”نہ تو
اِس آدمی نے گُناہ کیا تھا نہ اِس کے والدین نے، لیکن یہ
اِس لِئے اَندھا پیدا ہُوا کہ خُدا کا کام اِس میں ظاہر ہو۔

4 جِس نے مُجھے بھیجا ہے اُس کا کام ہمیں دِن ہی دِن میں
کرنا لازِم ہے۔ وہ رات آ رہی ہے جِس میں کوئی شخص
کام نہ کر سکے گا۔ 5 جَب تک میں دُنیا میں ہُوں، دُنیا
کا نُور ہُوں۔" 6 یہ کہہ کر یِسوعؔ نے زمین پر تھُوک کرمٹّی
سانی اَور اُس آدمی کی آنکھوں پر لگا دی 7 اَور اُنہُوں نے
اَندھے سے فرمایا،"جا، سِلومؔ کے حوض میں دھولے"(سِلومؔ
کا مطلب ہے"بھیجا ہُوا")۔ لہٰذا وہ آدمی چلا گیا۔ اُس
نے اَپنی آنکھیں دھوئیں اَور بینا ہوکر واپس آیا۔ 8 اُس کے
پڑوسی اَور دُوسرے لوگ جنہوں نے پہلے اُسے بھیک مانگتے
ہوئے دیکھا تھا، کہنے لگے،"کیا یہ وُہی آدمی نہیں جو بیٹھا
ہُوا بھیک مانگا کرتا تھا؟" 9 بعض نے کہا کہ ہاں وُہی
ہے۔ بعض نے کہا، نہیں،"مگر اُس کا ہم شکل ضرُور
ہے۔"لیکن اُس آدمی نے کہا،"میں وُہی اَندھا ہُوں۔"
10 اُنہُوں نے اُس سے پُوچھا،"پھر تیری آنکھیں کیسے کھُل
گئیں؟" 11 اُس نے جَواب دیا،"لوگ جسے یِسوعؔ کہتے ہیں،
اُنہُوں نے مٹّی سانی اَور میری آنکھوں پر لگائی اَور کہا کہ جا
اَور سِلومؔ کے حوض میں آنکھیں دھولے۔ لہٰذا میں گیا اَور
آنکھیں دھوکر بینا ہو گیا۔" 12 اُنہُوں نے اُس سے پُوچھا،"وہ
آدمی کہاں ہے؟"اُس نے کہا،"میں نہیں جانتا۔" 13 لوگ
اُس آدمی کو جو پہلے اَندھا تھا فریسیوں کے پاس لائے۔
14 جِس دِن یِسوعؔ نے مٹّی سان کر اَندھے کی آنکھیں کھولی
تھیں وہ سَبت کا دِن تھا۔ 15 اِس لِئے فریسیوں نے بھی
اُس سے پُوچھا کہ تُجھے بینائی کیسے مِلی؟ اُس نے جَواب
دیا،"یِسوعؔ نے مٹّی سان کر میری آنکھوں پر لگائی، اَور مَیں
نے اُنہیں دھویا، اَور اَب مَیں بینا ہو گیا ہُوں۔" 16 فریسیوں
میں سے بعض کہنے لگے،"یہ آدمی خُدا کی طرف سے نہیں
کیونکہ وہ سَبت کے دِن کا اِحترام نہیں کرتا۔"بعض کہنے
لگے،"کوئی گُنہگار آدمی اَیسے معجزے کس طرح دِکھا
سَکتا ہے؟"پس اُن میں اِختلاف پیدا ہو گیا۔ 17 آخرکار وہ
اَندھے آدمی کی طرف مُتوجّہ ہُوئے اَور پُوچھنے لگے کہ
جِس آدمی نے تیری آنکھیں کھولی ہیں اُس کے بارے میں
تیرا کیا خیال ہے؟ اُس نے جَواب دیا،"وہ ضرُور کوئی نبی
ہے۔" 18 یہُودیوں کو ابھی بھی یقین نہ آیا کہ وہ پہلے اَندھا
تھا اَور بینا ہو گیا ہے۔ پس اُنہُوں نے اُس کے والدین کو بُلا
بھیجا۔ 19 تَب اُنہُوں نے اُن سے پُوچھا،"کیا یہ تمہارا بیٹا
ہے؟ جِس کے بارے میں تُم کہتے ہو کہ وہ اَندھا پیدا ہُوا
تھا؟ اَب وہ کیسے بینا ہو گیا؟" 20 والدین نے جَواب دیا،"ہم
جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی بیٹا ہے اَور یہ بھی کہ وہ اَندھا
ہی پیدا ہُوا تھا۔ 21 لیکن اَب وہ کیسے بینا ہو گیا اَور کِس
نے اُس کی آنکھیں کھولیں یہ ہم نہیں جانتے۔ تُم اُسی سے
پُوچھ لو، وہ تو بالغ ہے۔" 22 اُس کے والدین نے یہ اِس لِئے
کہاتھا کہ یہُودی رہنما سے ڈرتے تھے کیونکہ یہُودیوں نے
فیصلہ کر رکھا تھا کہ جو کوئی یِسوعؔ کو المسیح کی حیثیت
سے قبُول کرے گا، اُسے یہُودی عبادت گاہ سے خارج کر
دیا جائے گا۔ 23 اِسی لِئے اُس کے والدین نے کہا،"وہ بالغ
ہے، اُسی سے پُوچھ لو۔" 24 اُنہُوں نے اُس آدمی کو جو پہلے
اَندھا تھا پھر سے بُلایا اَور کہا،"سچ بول کر خُدا کو جلال
دے، ہم جانتے ہیں کہ وہ آدمی گُنہگار ہے۔" 25 اُس نے
جَواب دیا،"وہ گُنہگار ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا۔ ایک بات
ضرُور جانتا ہُوں کہ میں پہلے اَندھا تھا لیکن اَب دیکھتا
ہُوں!" 26 اُنہُوں نے اُس سے پُوچھا،"اُس نے تیرے ساتھ
کیا کیا؟ تیری آنکھیں کیسے کھولیں؟" 27 اُس نے جَواب
دیا،"میں تُمہیں پہلے ہی بتا چُکا ہُوں لیکن تُم نے سُنا نہیں۔
اَب وُہی بات پھر سے سُننا چاہتے ہو؟ کیا تُمہیں بھی اُس کے
شاگرد بننے کا شوق چرّایا ہے؟" 28 تَب وہ اُسے بُرا بھلا کہنے
لگے،"تو اُس کا شاگرد ہوگا۔ ہم تو حضرت مَوشہ کے
شاگرد ہیں! 29 ہم جانتے ہیں کہ خُدا نے حضرت مَوشہ
سے کلام کیا لیکن جہاں تک اِس آدمی کا تعلّق ہے، ہم تو
یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ کہاں کا ہے۔" 30 اُس آدمی نے
جَواب دیا،"یہ بڑی عجِیب بات ہے! تُم نہیں جانتے کہ وہ
کہاں کا ہے حالانکہ اُس نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی
ہیں۔ 31 سَب جانتے ہیں کہ خُدا گُنہگاروں کی نہیں سُنتا

لیکن اگر کوئی خُداپرست ہو اَور اُس کی مرضی پر چلے تو
اُس کی ضرور سُنتا ہے۔ 32 زمانہ قدیم سے اَیسا کبھی سُننے
میں نہیں آیا کہ کسی نے ایک پیدائشی اَندھے کو بینائی دی
ہو۔ (aiōn g165) 33 اگر یہ آدمی خُدا کی طرف سے نہ ہوتا تو
کُچھ بھی نہیں کر سَکتا تھا۔" 34 یہ سُن کر اُنہوں نے جَواب
دیا،"تُو جو سراسر گُناہ میں پیدا ہُوا، ہمیں کیا سِکھاتا ہے!"یہ
کہہ کر اُنہوں نے اَندھے کو باہر نکال دیا۔ 35 یِسوعؔ نے یہ
سُنا کہ فریسیوں نے اُسے عبادت گاہ سے نکال دیا ہے۔
چنانچہ اُسے تلاش کرکے اُس سے پُوچھا،"کیا تُو اِبنِ آدمؔ
پر ایمان رکھتا ہے؟" 36 اُس نے پُوچھا،"اَے آقا! وہ کون
ہے؟ مُجھے بتائیے تاکہ میں اُس پر ایمان لاؤں۔" 37 یِسوعؔ
نے فرمایا،"تُونے اُنہیں دیکھاہے اَور حقیقت تو یہ ہے کہ
جو اِس وقت تُجھ سے بات کر رہاہے، وُہی ہے۔" 38 تَب
اُس آدمی نے کہا،"اَے خُداوؔند، میں ایمان لاتا ہُوں،"اَور
اُس نے یِسوعؔ کو سَجدہ کیا۔ 39 یِسوعؔ نے فرمایا،"میں دُنیا
کی عدالت کرنے آیا ہُوں تاکہ جو اَندھے ہیں دیکھنے لگیں
اَورجو آنکھوں والے ہیں، اَندھے ہو جائیں۔" 40 بعض
فرِیسی جو اُس کے ساتھ تھے یہ سُن کر پُوچھنے لگے،"کیا
کہا؟ کیا ہم بھی اَندھے ہیں؟" 41 یِسوعؔ نے فرمایا،"اگر تُم
اَندھے ہوتے تو اِتنے گُنہگار نہ سمجھے جاتے؛ لیکن اَب
جَب کہ تُم کہتے ہو کہ ہماری آنکھیں ہیں، تو تمہارا گُناہ
قائم رہتاہے۔

10 "میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں کہ جو آدمی بھیڑ خانہ
میں دروازے سے نہیں بلکہ کسی اَور طریقہ سے اَندر داخل
ہو جاتا ہے وہ چور اَور ڈاکُو ہے۔ 2 لیکن جو دروازہ سے
داخل ہوتاہے وہ بھیڑوں کا گلّہ بان ہے۔ 3 دربان اُس کے
لئے دروازہ کھول دیتاہے اَور بھیڑیں اُس کی آواز سُنتی ہیں۔
وہ اَپنی بھیڑوں کو نام بنام پُکارتا ہے اَور اُنہیں باہر لے جاتا
ہے۔ 4 جَب وہ اَپنی ساری بھیڑوں کو باہر نکال چُکتا ہے
تو اُن کے آگے آگے چلتا ہے اَور اُس کی بھیڑیں اُس کے
پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہیں، اِس لئے کہ وہ اُس کی آواز
پہچانتی ہیں۔ 5 وہ کسی اجنبی کے پیچھے کبھی نہ جائیں
گی، بلکہ، سچ تو یہ ہے کہ اُس سے دُور بھاگیں گی کیونکہ
وہ کسی غَیر کی آواز کو نہیں پہچانتیں۔" 6 یِسوعؔ نے اُنہیں یہ
تمثیل سُنائی لیکن فرِیسی نہ سمجھے کہ اِس کا مطلب کیا
ہے۔ 7 چنانچہ یِسوعؔ نے اُن سے پھر فرمایا،"میں تُم سے سچ
سچ کہتا ہُوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہُوں۔ 8 وہ سَب جو
مُجھ سے پہلے آئے چور اَور ڈاکُو تھے اِس لئے بھیڑوں نے اُن
کی نہ سُنی۔ 9 دروازہ میں ہُوں، اگر کوئی میرے ذریعہ
داخل ہو تو نَجات پائےگا۔ وہ اَندر باہر آتا جاتا رہے گا اَور
چراگاہ پائےگا۔ 10 چور صِرف چُرانے، ہلاک کرنے اَور
برباد کرنے آتا ہے؛ میں آیا ہُوں کہ لوگ زندگی پائیں اَور
کثرت سے پائیں۔ 11 "اَچھّا گلّہ بان میں ہُوں۔ اَچھّا گلّہ بان
اَپنی بھیڑوں کے لئے جان دیتاہے۔ 12 کوئی مزدُور نہ تو
بھیڑوں کو اَپنا سمجھتا ہے نہ اُن کا گلّہ بان ہوتاہے۔ اِس
لئے جَب وہ بھیڑئے کو آتا دیکھتا ہے تو بھیڑوں کو چھوڑکر
بھاگ جاتا ہے۔ تَب بھیڑیا گلّہ پر حملہ کرکے اُسے مُنتشر کر
دیتاہے۔ 13 چونکہ وہ مزدُور ہوتاہے اِس لئے بھاگ جاتا
ہے اَور بھیڑوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ 14 "اَچھّا گلّہ بان میں
ہُوں، میری بھیڑیں مُجھے جانتی ہیں اَور مَیں بھیڑوں کے لئے
اَپنی جان دیتا ہُوں۔ 15 جَیسے باپ مُجھے جانتا ہے، وَیسے
ہی میں باپ کو جانتا ہُوں۔ میں اَپنی بھیڑوں کے لئے اَپنی
جان نثار کر دیتا ہُوں۔ 16 میری اَور بھیڑیں بھی ہیں جو اِس
گلّہ میں شامل نہیں۔ مُجھے لازِم ہے کہ میں اُنہیں بھی لے
آؤں۔ وہ میری آواز سُنیں گی اَور پھر ایک ہی گلّہ اَور ایک
ہی گلّہ بان ہوگا۔ 17 میرا باپ مُجھے اِس لئے پیار کرتا ہے
کہ میں اَپنی جان قُربان کرتا ہُوں تاکہ اُسے پھر واپس لے
لُوں۔ 18 اُسے کوئی مُجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اَپنی مرضی
سے اُسے قُربان کرتا ہُوں۔ مُجھے اُسے قُربان کرنے کا اِختیار
ہے اَور پھر واپس لے لینے کا حق بھی ہے۔ یہ حُکم مُجھے
میرے باپ کی طرف سے مِلا ہے۔" 19 یہ باتیں سُن کر
یہُودیوں میں پھر اِختلاف پیدا ہُوا۔ 20 اُن میں سے کئی ایک

نے کہا،"اِس میں بدرُوح ہے اَور وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اِس
کی کیوں سُنیں؟" 21 لیکن اَوروں نے کہا،"یہ باتیں بدرُوح
کے مُنہ سے نہیں نکل سکتیں۔ کیا کویٔی بدرُوح اَندھوں کی
آنکھیں کھول سکتی ہے؟" 22 یروشلیمؔ میں بیت المُقدّس کے
مخصُوص کیٔے جانے کی عید آئی۔ سردی کا موسم تھا 23 اَور
یِسوعؔ بیت المُقدّس میں سُلیمانی برامدہ میں ٹہل رہے تھے۔
24 یہُودی اُن کے اِردگرد جمع ہو گئے اَور کہنے لگے،"تُو
کب تک ہمیں شک میں مُبتلا رکھے گا؟ اگر آپ المسیح
ہیں تو ہمیں صَاف صَاف بتا دے۔" 25 یِسوعؔ نے جَواب
دیا،"میں تُمہیں بتا چُکا ہُوں لیکن تُم تو میرا یقین ہی نہیں
کرتے۔ جو معجزے میں اَپنے باپ کے نام سے کرتا ہُوں
وُہی میرے گواہ ہیں۔ 26 لیکن تُم یقین نہیں کرتے کیونکہ
تُم میری بھیڑیں نہیں ہو۔ 27 میری بھیڑیں میری آواز سُنتی
ہیں۔ میں اُنہیں جانتا ہُوں اَور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی
ہیں۔ 28 میں اُنہیں اَبدی زندگی دیتا ہُوں۔ وہ کبھی ہلاک نہ
ہوں گی اَور کویٔی اُنہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں سَکتا۔
(aiōn g165, aiōnios g166) 29 میرا باپ، جِس نے اُنہیں میرے
سُپرد کیا ہے سَب سے بڑا ہے؛ کویٔی اُنہیں میرے باپ کے
ہاتھ سے نہیں چھین سَکتا۔ 30 میں اَور باپ ایک ہیں۔"
31 یہُودیوں نے پھر آپ کو سنگسار کرنے کے لیٔے پتّھر
اُٹھائے۔ 32 لیکن یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا،"مَیں نے تُمہیں
اَپنے باپ کی طرف سے بڑے بڑے معجزے دِکھائے ہیں۔
اُن میں سے کِس معجزہ کی وجہ سے مُجھے سنگسار کرنا
چاہتے ہو؟" 33 یہُودیوں نے جَواب دیا،"ہم آپ کو کسی
نیک کام کے لیٔے نہیں، بَلکہ اِس کُفر کے لیٔے سنگسار
کرنا چاہتے ہیں کہ آپ محض ایک اِنسان ہوتے ہوئے بھی
خُدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔" 34 یِسوعؔ نے اُن سے
فرمایا،"کیا تمہاری شَریعت میں یہ نہیں لِکھّا ہے،'مَیں نے
کہا، تُم "معبُود" ہو'؟ 35 اگر شَریعت اُنہیں 'معبُود،' کہتی ہے
جنہیں خُدا کا کلام دیا گیا اَور کِتاب مُقدّس جُھٹلایا نہیں جا
سَکتا۔ 36 تو تُم اُس کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے باپ
نے مخصُوص کرکے دُنیا میں بھیجا ہے؟ چنانچہ تُم مُجھ پر
کُفر کا اِلزام کیوں لگاتے ہو؟ کیا اِس لیٔے کہ مَیں نے
فرمایا،'میں خُدا کا بیٹا ہُوں'؟ 37 اگر مَیں باپ کے کہنے
کے مُطابق کام نہ کروں تو میرا یقین نہ کرو۔ 38 لیکن اگر
کرتا ہُوں تو چاہے میرا یقین نہ کرو لیکن اِن معجزوں کا تو
یقین کرو تاکہ جان لو اَور سمجھ جاؤ کہ باپ مُجھ میں ہے
اَور مَیں باپ میں ہُوں۔" 39 اُنہُوں نے پھر یِسوعؔ کو پکڑنے
کی کوشش کی لیکن وہ اُن کے ہاتھ سے بچ کر نکل گیٔے۔
40 اِس کے بعد یِسوعؔ یردنؔ پار اُس جگہ تشریف لے گیٔے
جہاں حضرت یُوحنّا شروع میں پاک غُسل دیا کرتے تھے۔
آپ وہاں ٹھہر گیٔے۔ 41 اَور بہت سے لوگ اُن کے پاس آئے
اَور ایک دُوسرے سے کہنے لگے،"حضرت یُوحنّا نے خُود
تو کویٔی معجزہ نہیں دِکھایا لیکن جو کُچھ حضرت یُوحنّا نے
اِن کے بارے میں فرمایا وہ سَب سچ ثابت ہُوا۔" 42 اَور اُس
جگہ بہت سے لوگ یِسوعؔ پر ایمان لائے۔

11 ایک آدمی جِس کا نام لعزؔر تھا، وہ بیمار تھا۔ وہ
بیت عنیّاہ میں رہتا تھا جو مریمؔ اَور اُس کی بہن مرتھاؔ کا
گاؤں تھا۔ 2 (یہ مریمؔ جِس کا بھائی لعزؔر بیمار پڑا تھا وُہی
عورت تھی جِس نے خُداوؔند کے سَر پر عطر ڈالا تھا اَور
اَپنے بالوں سے خُداوؔند کے پاؤں پونچھے تھے۔) 3 اُن دونوں
بہنوں نے یِسوعؔ کے پاس پیغام بھیجا،"اَے خُداوؔند جسے
آپ پیار کرتے ہیں، وہ بیمار پڑا ہُواہے۔" 4 جَب یِسوعؔ نے
یہ سُنا تو فرمایا،"یہ بیماری موت کے لیٔے نہیں بَلکہ خُدا کا
جلال ظاہر کرنے کے لیٔے ہے تاکہ اِس کے ذریعہ خُدا
کے بیٹے کا جلال بھی ظاہر ہو جائے۔" 5 یِسوعؔ مرتھاؔ، اُس
کی بہن مریمؔ اَور لعزؔر سے مَحَبّت رکھتے تھے۔ 6 پھر بھی جَب
آپ نے سُنا کہ لعزؔر بیمار ہے تو وہ اُسی جگہ جہاں پر وہ تھے
دو دِن اَور ٹھہرے رہے۔ 7 پھر یِسوعؔ نے اَپنے شاگردوں
سے فرمایا،"آؤ ہم واپس یہُودیؔہ چلیں۔" 8 شاگردوں نے
کہا، لیکن،"اَے ربّی، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہُودی رہنما
آپ کو سنگسار کرنا چاہتے تھے اَور پھر بھی آپ وہاں جانا

چاھتے ھیں؟“ 9 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”کیا دِن میں بَارہ گھنٹے
نہیں ھوتے؟ جو آدمی دِن میں چلتا ھے، ٹھوکر نہیں کھاتا،
اِس لِئے کہ وہ دُنیا کی رَوشنی دیکھ سَکتا ھے۔ 10 لیکن اگر
وہ رات کے وقت چلتا ھے تو اَندھیرے کے باعث ٹھوکر
کھاتا ھے۔“ 11 جَب وہ یہ باتیں کہہ چُکے تو شاگردوں
سے کہنے لگے،”ھمارا دوست لعزؔر سو گیا ھے لیکن مَیں
اُسے جگانے جا رھا ھُوں۔“ 12 شاگردوں نے یِسوعؔ سے
کہا،”اَے خُداوؔند، اگر اُسے نیند آ گئی ھے تو اُس کی
حالت بہتر ھو جائے گی۔“ 13 یِسوعؔ نے لعزؔر کی موت کے
بارے میں فرمایا تھا، لیکن آپ کے شاگردوں نے سمجھا کہ
اُس کا مطلب آرام کی نیند سے ھے۔ 14 لہٰذا یِسوعؔ نے اُنہیں
صَاف لفظوں میں بتایا،”لعزؔر مَر چُکاھے، اَور 15 میں تمہاری
خاطِر خُوش ھُوں کہ وھاں مَوجُود نہ تھا۔ اَب تُم مُجھ پر ایمان
لاؤگے۔ لیکن آؤ اُس کے پاس چلیں۔“ 16 تَب توماؔ (جسے
دِیدِیمُس بھی کہتے تھے) باقی شاگردوں سے کہنے لگا،”آؤ
ھم لوگ بھی چلیں تا کہ اِن کے ساتھ مَر سکیں۔“ 17 وھاں
پہُنچنے پر یِسوعؔ کو مَعلُوم ھُوا کہ لعزؔر کو قبر میں رکھے چار
دِن ھو گئے ھیں۔ 18 بیت عنیّاہ، یروشلیمؔ سے تقریباً تین کِلومیٹر
کے فاصلہ پر تھا 19 اَور بہت سے یہُودی مرتھاؔ اَور مریمؔ کو
اُن کے بھائی کی وفات پر تسلّی دینے کے لِئے آئے ھوئے
تھے۔ 20 جَب مرتھاؔ نے سُنا کہ یِسوعؔ آ رھے ھیں تو وہ آپ
سے مِلنے کے لِئے باھر چلی گئی لیکن مریمؔ گھر میں ھی
رھی۔ 21 مرتھاؔ نے یِسوعؔ سے کہا،”اَے خُداوؔند! اگر آپ
یہاں ھوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔ 22 لیکن مَیں جانتی ھُوں کہ
ابھی آپ جو کُچھ خُدا سے مانگوگے وہ آپ کو دے گا۔“
23 یِسوعؔ نے اُس سے فرمایا،”تیرا بھائی پھر سے جی اُٹھے
گا۔“ 24 مرتھاؔ نے جَواب دیا،”میں جانتی ھُوں کہ وہ آخِری
دِن قیامت کے وقت جی اُٹھے گا۔“ 25 یِسوعؔ نے اُس سے
فرمایا،”قیامت اَور زندگی میں ھی ھُوں۔ جو کوئی مُجھ پر ایمان
رکھتا ھے وہ مَرنے کے بعد بھی زندہ رھے گا 26 اَورجو
کوئی زندہ ھے اَور مُجھ پر ایمان لاتا ھے کبھی نہ مَرے گا۔
کیا تُو اِس پر ایمان رکھتی ھے؟“ (aiōn g165) 27 مرتھاؔ نے
جَواب دیا،”ھاں، خُداوؔند،“میرا ایمان ھے، آپ تو خُدا کے
بیٹے المسیح ھیں جو دُنیا میں آنے والے تھے۔ 28 جَب وہ یہ
بات کہہ چُکی تو واپس گئی، اَور اَپنی بہن مریمؔ کو الگ
بُلاکر کہنے لگی،”اُستاد آ چُکے ھیں اَور تُجھے بُلا رھے ھیں۔“
29 جَب مریمؔ نے یہ سُنا تو وہ جلدی سے اُٹھی اَور یِسوعؔ
سے مِلنے چل دی۔ 30 یِسوعؔ ابھی گاؤں میں داخل نہ ھُوئے
تھے بَلکہ ابھی اُسی جگہ تھے جہاں مرتھاؔ اُن سے مِلی تھی۔
31 جَب اُن یہُودیوں نے جو گھر میں مریمؔ کے ساتھ تھے اَور
اُسے تسلّی دے رھے تھے دیکھا مریمؔ جلدی سے اُٹھ کر باھر
چلی گئی ھے تو وہ بھی اُس کے پیچھے گئے کہ شاید وہ ماتم
کرنے کے لِئے قبر پر جا رھی ھے۔ 32 جَب مریمؔ اُس جگہ
پہُنچی جہاں یِسوعؔ تھے تو آپ کو دیکھ کر یِسوعؔ کے پاؤں پر
گِر پڑی اَور کہنے لگی،”خُداوؔند، اگر آپ یہاں ھوتے، تو میرا
بھائی نہ مرتا۔“ 33 جَب یِسوعؔ نے اُسے اَور اُس کے ساتھ
آنے والے یہُودیوں کو روتے ھوئے دیکھا، تو یِسوعؔ دِل میں
نہایت ھی رنجیدہ ھوئے۔ 34 اَور پُوچھا، تُم نے لعزؔر کو
کہاں رکھا ھے؟ اُنہُوں نے کہا،”آئیے خُداوؔند، اَور خُود ھی
دیکھ لیجئیے۔“ 35 یِسوعؔ کی آنکھوں میں آنسُو بھر آئے۔ 36 یہ
دیکھ کر یہُودی کہنے لگے،”دیکھو لعزؔر اِن کا کِس قدر
عزیز تھا!“ 37 لیکن اُن میں سے بعض نے کہا،”کیا یہ جِس
نے اَندھے کی آنکھیں کھولیں، اِتنا بھی نہ کر سَکا کہ لعزؔر
کو موت سے بچا لیتا؟“ 38 یِسوعؔ غمگین دِل کے ساتھ قبر پر
آئے۔ یہ ایک غار تھا جِس کے مُنہ پر ایک پتّھر رکھا ھُوا
تھا۔ 39 یِسوعؔ نے فرمایا،”پتّھر کو ھٹا دو۔“مرحُوم کی بہن
مرتھاؔ، اِعتراض کرتے ھوئے بولی،”لیکن، خُداوؔند، اُس میں
سے تو بدبُو آنے لگی ھوگی کیونکہ لعزؔر کو قبر میں چار دِن
ھو گئے ھیں۔“ 40 اِس پر یِسوعؔ نے فرمایا،”کیا مَیں نے نہیں
کہاتھا کہ اگر تیرا ایمان ھوگا تو تُو خُدا کا جلال دیکھے
گی؟“ 41 پس اُنہُوں نے پتّھر کو دُور ھٹا دیا۔ تَب یِسوعؔ نے
آنکھیں اُوپر اُٹھا کر فرمایا،”اَے باپ، مَیں آپ کا شُکرگزار

هُوں کہ آپ نے میری سُن لی ہے۔ 42 میں جانتا ہُوں کہ
آپ ہمیشہ میری سُنتے ہیں لیکن مَیں نے اِن لوگوں کی خاطِر
جو چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں یہ کہاتھا تاکہ یہ بھی
ایمان لائیں۔" 43 یہ کہنے کے بعد یِسوعؔ نے بُلند آواز سے
پُکارا،"لعزؔر باھر نکل آ!" 44 اَور وہ مُردہ لعزؔر نکل آیا، اُس
کے ھاتھ اَور پاؤں کفن سے بندھے ہوئے تھے اَور چہرہ پر
ایک رُومال لپٹا ہُوا تھا۔ یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا،"اِس کے
کفن کو کھول دو اَور لعزؔر کو جانے دو۔" 45 بہت سے
یہُودی جو مریمؔ سے مِلنے آئےتھے، یِسوعؔ کا معجزہ دیکھ کر
اُن پر ایمان لائے۔ 46 لیکن اُن میں سے بعض نے فریسیوں
کے پاس جا کرجو کُچھ یِسوعؔ نے کِیا تھا، اُنہیں کہہ سُنایا۔
47 تَب اہم کاہِنوں اَور فریسیوں نے عدالتِ عالیہ کا اِجلاس
طلب کِیا اَور کہنے لگے،"ھم کیا کر رہے ھیں؟ یہ آدمی تو
یہاں معجزوں پر معجزے کِئے جا رہاھے۔ 48 اگر ھم اِسے
یُوں ھی چھوڑ دیں گے تو سَب لوگ اِس پر ایمان لے آئیں
گے اَور رُومی یہاں آکر ھمارے بیت المُقدّس اَور ھمارے
مُلک دونوں پر قبضہ جما لیں گے۔" 49 تَب اُن میں سے ایک
جِس کا نام کائِفؔا تھا، اَورجو اُس سال اعلیٰ کاہِن تھا، کہنے
لگا،"تُم لوگ کُچھ نہیں جانتے! 50 تُمہیں مَعلُوم ہونا چاہئے کہ
بہتر یہ ھے کہ لوگوں کی خاطِر ایک شخص ماراجائے نہ کہ
ساری قوم ھلاک ھو۔" 51 یہ بات اُس نے اَپنی طرف سے
نہیں کہی تھی بَلکہ اُس سال کے اعلیٰ کاہِن کی حیثیت
سے اُس نے پیشن گوئی کی تھی کہ یِسوعؔ ساری یہُودی
قوم کے لِئے اَپنی جان دیں گے۔ 52 اَور صِرف یہُودی قوم
کے لِئے ھی نہیں بَلکہ اِس لِئے بھی کہ خُدا کے سارے
فرزندوں کو جو جابجا بکھرے ہوئے ھیں جمع کرکے واحد
قوم بنادے۔ 53 پس اُنہُوں نے اُس دِن سے یِسوعؔ کے قتل
کا منصُوبہ بنانا شروع کر دیا۔ 54 اِس کے نتیجہ میں یِسوعؔ
نے یہُودیؔہ میں سرِعام گھُومنا پھِرنا چھوڑ دیا اَور بیابان کے
نزدیک کے علاقہ میں اِفرائیمؔ نام گاؤں کو چلےگئے اَور وھاں
اَپنے شاگردوں کے ساتھ رہنے لگے۔ 55 جَب یہُودیوں کی
عیدِفسح نزدیک آئی تو بہت سے لوگ اِردگرد کے علاقوں
سے یروشلیمؔ آنے لگے تاکہ عیدِفسح سے پہلے طہارت کی
ساری رسمیں پُوری کر سکیں۔ 56 وہ یِسوعؔ کو ڈھونڈتے
پھرتے تھے، اَور جَب بیت المُقدّس کے صحنوں میں جمع
ہوئے تو ایک دُوسرے سے کہنے لگے،"کیا خیال ھے، کیا
وہ عید میں آئے گایا نہیں؟" 57 کیونکہ اہم کاہِنوں اَور
فریسیوں نے حُکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی کو مَعلُوم ہو
جائے کہ یِسوعؔ کہاں ھیں تو وہ فوراً اِطّلاع دے تاکہ وہ
یِسوعؔ کو گرفتار کر سکیں۔

12 عیدِفسح سے چھ دِن پہلے، یِسوعؔ بیت عنیّاہ میں
تشریف لائے جہاں لعزؔر رہتا تھا، جسے یِسوعؔ نے مُردوں
میں سے زندہ کِیا تھا۔ 2 یہاں یِسوعؔ کے لِئے ایک ضیافت
ترتیب دی گئی۔ مرتھاؔ خدمت کر رھی تھی، جَب کہ لعزؔر
اُن مہمانوں میں شامل تھا جو یِسوعؔ کے ساتھ دسترخوان پر
کھانا کھانے بیٹھے تھے۔ 3 اُس وقت مریمؔ نے تقریباً نِصف
لیٹر خالص اَور بڑا قیمتی عِطر یِسوعؔ کے پاؤں پر ڈال کر، اَپنے
بالوں سے آپ کے پاؤں کو پونچھنا شروع کر دیا۔ اَور سارا
گھر عِطر کی خُوشبو سے مہک اُٹھا۔ 4 یِسوعؔ کے شاگردوں
میں سے ایک، یہُوداہؔ اِسکریوتی، جِس نے آپ کو بعد میں
پکڑوایاتھا، شکایت کرنے لگا، 5 "یہ عِطر اگر فروخت کِیا
جاتا تو تین سَو دینار وصول ہوتے جو غریبوں میں تقسیم
کِئے جا سکتے تھے۔" 6 اُس نے یہ اِس لِئے نہیں کہاتھا کہ
اُسے غریبوں کا خیال تھا بَلکہ اِس لِئے کہ وہ چور تھا؛ اَور
چونکہ اُس کے پاس پیسوں کی تھیلی رہتی تھی، جِس میں
لوگ رقم ڈالتے تھے۔ وہ اُس میں سے اَپنے اِستعمال کے لِئے
کُچھ نہ کُچھ نکال لیا کرتا تھا۔ 7 یِسوعؔ نے فرمایا،"اُسے پریشان
نہ کرو اُسے اَیسا کرنے دو، اُس نے یہ عِطر میری تدفین
کے لِئے سنبھال کر رکھا ہُواھے۔ 8 غریب غُربا تو ہمیشہ
تمہارے ساتھ رھیں گے، لیکن مَیں یہاں ہمیشہ تمہارے
پاس نہ رھُوں گا۔" 9 اِس دَوران یہُودی عوام کو مَعلُوم ہُوا
کہ یِسوعؔ بیت عنیّاہ میں ھیں، لہٰذا وہ بھی وھاں آگئے۔ وہ

صِرف یِسوعؔ کو ھی نہیں بَلکہ لعزؔر کو بھی دیکھنا چاھتے
تھے جسے آپ نے مُردوں میں سے زندہ کِیا تھا۔ 10 تَب
اھم کاھِنوں نے لعزؔر کو بھی قتل کرنے کا منصُوبہ بنایا،
11 کیونکہ اُس وقت بہت سے یہُودی یِسوعؔ کی طرف مائل
ھوکر آپ پر اِیمان لے آئےتھے۔ 12 اگلے دِن عوام جو عید
کے لِئے آئے ھوئے تھے، یہ سُن کر کہ یِسوعؔ بھی یروشلیمؔ آ
رہے ھیں، 13 کھجوُر کی ڈالیاں لے کر آپ کے اِستِقبال
کو نکلے اَور نعرے لگانے لگے،”ھوشعنا!“”مُبارک ھیں
وہ جو خُداوَندؔ کے نام سے آتے ھیں!“”اِسرائیلؔ کا بادشاہ
مُبارک ھے!“ 14 یِسوعؔ ایک کمسِن گدھے کو لے کر اُس پر
سوارھوگئے، جَیسا کہ کِتاب مُقدّس میں لِکھّا ھے: 15 ”اَے
صِیّونؔ کی بیٹی، تُو مت ڈر؛ دیکھ، تیرا بادشاہ آ رھاھے،
گدھے کے بچّے پر بیٹھا ھُواھے۔“ 16 شروع میں تو یِسوعؔ کے
شاگرد کُچھ نہ سمجھے کہ یہ کیا ھو رھاھے۔ لیکن بعد میں
جَب یِسوعؔ اَپنے جلال کو پہُنچے تو اُنہیں یاد آیا کہ یہ سَب
باتیں آپ کے بارے میں لکھی ھوئی تھیں اَور یہ کہ لوگوں
کا یہ سلُوک بھی اُن ھی باتوں کے مُطابق تھا۔ 17 جَب یِسوعؔ
نے آواز دے کر لعزؔر کو قبر سے باھر بُلایا اَور اُسے مُردوں
میں سے زندہ کیا تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے اَور اُنہُوں
نے یہ خبر ھر طرف پھیلا دی تھی۔ 18 بہت سے اَور لوگ،
بھی یہ سُن کر کہ یِسوعؔ نے ایک بہت بڑا معجزہ دِکھایا
ھے، آپ کے اِستِقبال کو نکلے۔ 19 فرِیسی یہ دیکھ کر
ایک دُوسرے سے کہنے لگے،”ذرا سوچو تو آخِر ھمیں کیا
حاصل ھُوا۔ دیکھو ساری دُنیا اُس کے پیچھے کیسے چل
رھی ھے!“ 20 جو لوگ عید کے موقع پر عبادت کرنے کے
لِئے آئےتھے اُن میں بعض یُونانی بھی تھے۔ 21 وہ فِلِپُّسؔ کے
پاس آئے، جو گلِیل کے شہر بیت صیؔدا کا باشِندہ تھا، اَور
اُس سے درخواست کرنے لگے۔ جَناب،”ھم یِسوعؔ کو
دیکھنا چاھتے ھیں۔“ 22 فِلِپُّسؔ نے اَندریاسؔ کو بتایا؛ اَور پھر
دونوں نے آکر یِسوعؔ کو خبر دی۔ 23 یِسوعؔ نے اُنہیں جَواب
دیا،”اِبنِ آدمؔ کے جلال پانے کا وقت آ پہُنچا ھے۔ 24 میں تُم
سے سچ سچ کہتا ھُوں کہ جَب تک گیہُوں کا دانہ خاک میں
مِل کر فنا نہیں ھو جاتا، وہ ایک ھی دانہ رھتاھے۔ لیکن اگر
وہ فنا ھو جاتا ھے، تو بہت سے دانے پیدا کرتا ھے۔ 25 جو
آدمی اَپنی جان کو عزیز رکھتا ھے، اُسے کھوئے گا لیکن
جو دُنیا میں اَپنی جان سے عداوت رکھتا ھے وہ اُسے اَبدی
زندگی کے لِئے محفوظ رکھے گا۔ (aiōnios g166) 26 جو کوئی
میری خدمت کرنا چاھتاھے اُسے لازِم ھے کہ میری پیروی
کرے، تاکہ جہاں میں ھُوں، وھاں میرا خادِم بھی ھو۔ جو
میری خدمت کرتا ھے میرا آسمانی باپ اُسے عزّت بخشیں
گے۔ 27 ”اَب میرا دِل گھبراتا ھے، تو کیا میں یہ کہُوں؟’اَے
باپ، مُجھے اِس گھڑی سے بچائے رکھ‘؟ ھرگز نہیں، کیونکہ
اِسی لِئے تو میں آیا ھُوں کہ اِس گھڑی تک پہُنچوں۔ 28 اَے
باپ، اَپنے نام کو جلال بخش!“تَب آسمان سے ایک آواز
سُنائی دی،”مَیں نے جلال بخشا ھے اَور پھر بخشوں گا۔“
29 جَب لوگوں کا ھُجوم جو وھاں جمع تھا یہ سُنا تو کہا کہ
بادل گرجا ھے؛ دُوسروں نے کہا کہ کسی فرشتہ نے یِسوعؔ
سے کلام کیا ھے۔ 30 یِسوعؔ نے فرمایا،”یہ آواز تمہارے
لِئے آئی ھے نہ کہ میرے لِئے۔ 31 اَب وہ وقت آ گیا ھے
کہ دُنیا کی عدالت کی جائے۔ اَب اِس دُنیا کا حُکمراں
باھر نکالا جائے گا۔ 32 لیکن جِس وقت مَیں، زمین پر،
اُونچا اُٹھایا جاؤں گا تو سَب لوگوں کو اَپنے پاس کھینچ لُوں
گا۔“ 33 یِسوعؔ نے یہ کہہ کر ظاھر کر دیا کہ وہ کِس قِسم
کی موت سے مَرنے والے ھیں۔ 34 لوگوں نے آپ سے
کہا،”ھم نے شَریعت میں سُنا ھے کہ المسیح ھمیشہ زندہ
رھیں گے، پھر آپ کیسے کہتے ھیں،’اِبنِ آدمؔ کا صلیب پر
چڑھایا جانا ضرُوری ھے‘؟ یہ’اِبنِ آدمؔ کون ھے‘؟“ (aiōn g165)
35 یِسوعؔ نے اُنہیں جَواب دیا،”نُور تمہارے درمیان تھوڑی
دیر اَور مَوجُود رہے گا۔ نُور جَب تک تمہارے درمیان ھے
نُور میں چلے چلو، اِس سے پہلے کہ تاریکی تُمہیں آ لے۔
جو کوئی تاریکی میں چلتا ھے، نہیں جانتا کہ وہ کدھر جا
رھاھے۔ 36 جَب تک نُور تمہارے درمیان ھے تُم نُور پر

ایمان لاؤ، تاکہ تُم نُور کے فرزند بَن سکو۔“جَب یِسوعؔ یہ
باتیں کہہ چُکے، تو وہاں سے چلےگئے اَور اُن کی نظروں
سے اوجھل ہو گئے۔ 37 اگرچہ یِسوعؔ نے اُن کے درمیان
اِتنے معجزے دِکھائے تھے پھر بھی وہ اُن پر ایمان نہ لائے
38 تاکہ یَشعیاہ نبی کا قول پُورا ہو:”اَے خُداوؔند، ہمارے
پیغام پر کون ایمان لایا اَور خُداوؔند کے بازو کی قُوّت کِس پر
ظاہر ہوئی؟“ 39 یہی وجہ تھی کہ وہ ایمان نہ لا سکے۔
یَشعیاہ ایک اَور جگہ کہتے ہیں: 40 ”خُدا نے اُن کی آنکھوں
کو اَندھا اَور دِلوں کو سخت کر دیا ہے، تاکہ اَیسا نہ ہو
کہ اَپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اَور اَپنے دِلوں سے سمجھ
سکیں، اَور تَوبہ کریں کہ میں اُنہیں شفا بخشوں۔“ 41 یَشعیاہ
نے یہ اِس لیٔے کہا کیونکہ یَشعیاہ نے خُداوؔند کا جلال
دیکھا تھا اَور اُن کے بارے میں کلام بھی کیا۔ 42 اِس کے
باوُجُود بھی یہُودیوں کے کئی رہنما اُن پر ایمان تو لے آئے۔
لیکن وہ فریسیوں کی وجہ سے اَپنے ایمان کا اقرار نہ کرتے
تھے کیونکہ اُنہیں خوف تھا کہ وہ یہُودی عبادت گاہ سے
خارج کر دیئے جائیں گے؛ 43 دراصل وہ خُدا کی طرف
سے عزّت پانے کی بجائے اِنسانوں کی طرف سے عزّت
پانے کے زِیادہ مُتلاشی تھے۔ 44 تَب یِسوعؔ نے پُکار کر
کہا،”جو کوئی مُجھ پر ایمان لاتا ہے، وہ نہ صِرف مُجھ پر
بَلکہ میرے بھیجنے والے پر بھی ایمان لاتا ہے۔ 45 اَور جَب
وہ مُجھ پر نظر ڈالتا ہے تو میرے بھیجنے والے کو دیکھتا
ہے۔ 46 میں دُنیا میں نُور بَن کر آیا ہُوں تاکہ جو مُجھ پر ایمان
لائے وہ تاریکی میں نہ رہے۔ 47 ”اگر کوئی میری باتیں سُنتا
ہے اَور اُن پر عَمل نہیں کرتا تو میں اُسے مُجرم نہیں ٹھہراتا
کیونکہ مَیں دُنیا کو مُجرم ٹھہرانے نہیں آیا بَلکہ نَجات دینے
آیا ہُوں۔ 48 جو مُجھے ردّ کرتا ہے اَور میری باتیں قبُول نہیں
کرتا اُس کا اِنصاف کرنے والا ایک ہے یعنی میرا کلام جو
آخری دِن اُسے مُجرم ٹھہرائے گا۔ 49 کیونکہ مَیں نے اَپنی
طرف سے کُچھ نہیں کہا بَلکہ آسمانی باپ جِس نے مُجھے
بھیجا ہے اُن ہی نے مُجھے سَب کُچھ کہنے کا حُکم دیا ہے۔
50 میں جانتا ہُوں کہ اُن کا حُکم بجا لانا اَبدی زندگی کی
طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا میں وُہی کہتا ہُوں جِس کے
کہنے کا حُکم مُجھے باپ نے دیا ہے۔“ (aiōnios g166)

13 عیدِفسح کے آغاز سے پہلے یِسوعؔ نے جان لیا کہ اُن
کے دُنیا سے رخصت ہوکر باپ کے پاس جانے کا وقت آ
گیا ہے۔ وہ اَپنے لوگوں سے مَحَبّت کرتے تھے جو دُنیا میں
تھے، اَور اُن کی مَحَبّت اُن سے آخری وقت تک قائم رہی۔
2 وہ لوگ شام کا کھانا کھا رہے تھے، اَور شیطان نے پہلے
ہی شمعُونؔ کے بیٹے یہُوداہؔ اِسکریوتی کے دِل میں، یِسوعؔ کے
پکڑوا دینے کا خیال، ڈال دیا تھا۔ 3 آپ کو مَعلُوم تھا کہ
باپ نے ساری چیزیں اُن کے ہاتھ میں کر دی ہیں، اَور یہ
بھی کہ وہ خُدا کی طرف سے آئے ہیں اَور خُدا کی طرف
واپس جا رہے ہیں؛ 4 پس وہ دسترخوان سے اُٹھے، اَور اَپنا
چوغہ اُتار ڈالا اَور ایک تولیہ لے کر اَپنی کمر کے گِرد لپیٹ
لیا۔ 5 اِس کے بعد، یِسوعؔ نے ایک برتن میں پانی ڈالا اَور
اَپنے شاگردوں کے پاؤں دھوکر، اُنہیں اَپنی کمر میں بندھے
ہوئے تولیہ سے پونچھنے لگے۔ 6 جَب وہ شمعُونؔ پطرس تک
پہُنچے تو پطرس کہنے لگے،”اَے خُداوؔند، کیا آپ میرے
پاؤں دھونا چاہتے ہیں؟“ 7 یِسوعؔ نے جَواب دیا،”جو میں کر
رہا ہُوں تُم اُسے ابھی تو نہیں جانتے، لیکن بعد میں سمجھ
جاؤگے۔“ 8 پطرس نے جَواب دیا،”نہیں، مَیں آپ کو اَپنے
پاؤں ہرگز نہیں دھونے دُوں گا۔“یِسوعؔ نے جَواب دیا،”اگر
مَیں تُمہیں نہ دھوؤں، تو تمہاری میرے ساتھ کوئی شراکت
نہیں رہ سکتی۔“ (aiōn g165) 9 اِس پر، شمعُونؔ پطرس نے
یِسوعؔ سے کہا،”اَے خُداوؔند، اگر یہ بات ہے تو صِرف
میرے پاؤں ہی نہیں بَلکہ ہاتھ اَور سَر بھی دھو دیجئے!“
10 یِسوعؔ نے پطرس سے فرمایا،”جو شخص غُسل کر چُکا ہے
اُسے صِرف پاؤں دھونے کی ضرُورت ہوتی ہے؛ اُس کا
سارا جِسم تو پاک ہوتاہے۔ تُم لوگ پاک ہو لیکن سَب کے
سَب نہیں۔“ 11 یِسوعؔ کو مَعلُوم تھا کہ کون اُنہیں پکڑوائے
گا۔ اِسی لیٔے آپ نے فرمایا، تُم سَب کے سَب پاک نہیں ہو۔

12 جَب وہ اُن کے پاؤں دھو چُکے، تو اَپنا چوغہ پہن کر اَپنی
جگہ آبیٹھے۔ تَب آپ نے اُن سے پُوچھا، ”مَیں نے تمہارے
ساتھ جو کُچھ کیا، کیا تُم اِس کا مطلب سمجھتے ہو؟ 13 تُم
مُجھے ’اُستاد‘ اَور ’خُداوؔند،‘ کہتے ہو، اَور تمہارا کہنا بجا ہے،
کیونکہ مَیں واقعی تمہارا اُستاد اَور خُداوؔند ہُوں۔ 14 جَب
مَیں نے، یعنی تمہارے اُستاد اَور خُداوؔند، نے تمہارے پاؤں
دھوئے، تو تمہارا بھی فرض ہے کہ ایک دُوسرے کے
پاؤں دھویا کرو۔ 15 مَیں نے تُمہیں ایک نمونہ دیا ہے کہ
جَیسا مَیں نے کیا تُم بھی کیا کرو۔ 16 میں تُم سے سچ سچ کہتا
ہُوں، کوئی خادِم اَپنے آقا سے بڑا نہیں ہوتا، نہ ہی کویٔی
قاصِد اَپنے پیغام بھیجنے والے سے بڑا ہوتا ہے۔ 17 تُم اِن باتوں
کو جان گیٔے ہو، اِن باتوں پر عَمل بھی کروگے تو تُم مُبارک
ہوگے۔ 18 ”میرا اِشارہ تُم سَب کی طرف نہیں ہے؛ جنہیں
مَیں نے چُنا ہے اُنہیں میں جانتا ہُوں۔ لیکن کِتاب مُقدّس کی
اِس بات کا پُورا ہونا ضرُوری ہے: ’جو میری روٹی کھاتا ہے
وُہی مُجھ پر لات اُٹھاتا ہے۔‘ 19 ”اِس سے پہلے کہ اَیسا ہو،
میں تُمہیں بتا رہا ہُوں، تا کہ جَب اَیسا ہو جائے تو تُم ایمان
رکھو کہ وہ میں ہی ہُوں۔ 20 میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں،
جو میرے بھیجے ہوئے کو قبُول کرتا ہے وہ مُجھے قبُول
کرتا ہے؛ اَورجو مُجھے قبُول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے
کو قبُول کرتا ہے۔“ 21 اُن باتوں کے بعد، یِسوعؔ اَپنے دِل
میں نہایت ہی رنجیدہ ہُوئے اَور یہ گواہی دی، ”میں تُم سے
سچ سچ کہتا ہُوں کہ تُم میں سے، ایک مُجھے پکڑوائے گا۔“
22 اُن کے شاگرد ایک دُوسرے کو شُبہ کی نظر سے دیکھنے
لگے، کیونکہ اُنہیں مَعلُوم نہ تھا کہ اُن کا اِشارہ کِس کی
طرف ہے۔ 23 اُن میں سے ایک، شاگرد جِس سے یِسوعؔ
مَحَبّت رکھتے تھے، دسترخوان پر اُن کے نزدیک ہی جھُکا
بیٹھا تھا۔ 24 شمعُونؔ پطرس نے اُس شاگرد سے اِشاروں میں
پُوچھا، ”یِسوعؔ کِس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔“ 25 اُن
شاگرد نے یِسوعؔ کی طرف جُھک کر، آپ سے پُوچھا، ”اَے
خُداوؔند، وہ کون ہے؟“ 26 یِسوعؔ نے جَواب دیا، ”جسے میں
نوالہ ڈُبو کر دُوں گا وُہی ہے۔“ تَب، آپ نے نوالہ ڈُبو کر،
شمعُونؔ اِسکریوتی کے بیٹے یہُوداہؔ، کو دیا۔ 27 اَور اُس نوالہ
کے بعد، شیطان یہُوداہؔ اِسکریوتی میں سما گیا۔ تَب یِسوعؔ نے
یہُوداہؔ اِسکریوتی سے فرمایا، ”جو کُچھ تُجھے کرنا ہے، جلدی
کر لے۔“ 28 لیکن دسترخوان پر کسی کو مَعلُوم نہ ہُوا کہ
آپ نے اُسے اَیسا کیوں کہا۔ 29 یہُوداہؔ کے پاس پیسوں کی
تھیلی رہتی تھی، اِس لیٔے بعض نے سوچا کہ یِسوعؔ اُسے عید
کے لیٔے ضرُوری سامان خریدنے کے لیٔے کہہ رہے ہیں، یا
یہ کہ غریبوں کو کُچھ دے دینا۔ 30 جُوں ہی یہُوداہؔ نے
روٹی کا نوالہ لیا، فوراً باھر چلا گیا۔ اَور رات ہو چُکی تھی۔
31 جَب یہُوداہؔ چلا گیا، تو یِسوعؔ نے فرمایا، ”اَب جَب کہ
اِبنِ آدمؔ نے جلال پایا ہے تو گویا خُدا نے اُس میں جلال
پایا ہے۔ 32 چونکہ خُدا نے حُضُور المسیح میں جلال پایا
ہے، تو خُدا بھی اَپنے بیٹے کو اَپنا جلال دے گا اَور فَوری
طور پر دے گا۔ 33 ”میرے بچّو، میں کُچھ دیر اَور تمہارے
ساتھ ہُوں۔ تُم مُجھے ڈھونڈوگے اَور جَیسا مَیں نے یہُودی
رہنماؤں سے فرمایا، تُم سے بھی کہتا ہُوں: جہاں میں جا
رہا ہُوں، تُم وہاں نہیں آسکتے۔ 34 ”میں تُمہیں ایک نیا حُکم
دیتا ہُوں: ایک دُوسرے سے مَحَبّت رکھو۔ جِس طرح مَیں
نے تُم سے مَحَبّت رکھی، تُم بھی ایک دُوسرے سے مَحَبّت
رکھو۔ 35 اگر تُم ایک دُوسرے سے مَحَبّت رکھوگے، تو
اِس سے سَب لوگ جان لیں گے کہ تُم میرے شاگرد ہو۔“
36 شمعُونؔ پطرس نے اُن سے کہا، اَے خُداوؔند! آپ کہاں
جا رہے ہیں؟ یِسوعؔ نے جَواب دیا، ”جہاں میں جا رہا ہُوں
تُم ابھی تو میرے ساتھ نہیں آسکتے لیکن بعد میں آ جاؤگے۔“
37 پطرس نے پُوچھا، اَے خُداوؔند، ”مَیں آپ کے ساتھ ابھی
کیوں نہیں آسکتا؟ میں تو اَپنی جان تک آپ پر نثار کر دُوں
گا۔“ 38 یہ سُن کر یِسوعؔ نے فرمایا، ”کیا تُم واقعی میرے لیٔے
اَپنی جان دوگے؟ میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں کہ اِس سے
پہلے کہ مُرغ بانگ دے تُم تین دفعہ میرا اِنکار کروگے!

14

”تمہارا دِل پریشان نہ ہو۔ تُم خُدا پر ایمان رکھتے
ہو، تو مُجھ پر بھی ایمان رکھو۔ 2 میرے باپ کے یہاں بہت
سے رِہائشی مقام ہیں، اگر نہ ہوتے، تو مَیں تُمہیں بتا دیتا
مَیں تمہارے لِئے جگہ تیّار کرنے وہاں جا رہا ہُوں۔ 3 اَور
اگر مَیں جا کر تمہارے لِئے جگہ تیّار کروں، تو واپس آ کر
تُمہیں اَپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہُوں وہاں تُم
بھی ہو۔ 4 جہاں میں جا رہا ہُوں، تُم وہاں کی راہ جانتے
ہو۔“ 5 توماؔ نے یِسوعؔ سے کہا،”اَے خُداوؔند، ہم یہ نہیں
جانتے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ہم راستہ کیسے جان
سکتے ہیں؟“ 6 یِسوعؔ نے جَواب میں فرمایا،”راہ اَور حق
اَور زندگی میں ہی ہُوں۔ میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ
کے پاس نہیں آتا۔ 7 اگر تُم نے واقعی مُجھے جانا ہوتا، تو
میرے باپ کو بھی جانتے۔ اَب تُم اُنہیں جان گئے ہو بلکہ
اُنہیں دیکھ بھی چُکے ہو۔“ 8 فِلِپُّسؔ نے کہا،”اَے خُداوؔند،
ہمیں باپ کا دیدار کرا دیجئے، بس یہی ہمارے لِئے کافی
ہے۔“ 9 یِسوعؔ نے جَواب دیا:”فِلِپُّسؔ میں اِتنے عرصہ سے تُم
لوگوں کے ساتھ ہُوں، کیا تُم مُجھے نہیں جانتے؟ جِس نے
مُجھے دیکھاہے اُس نے باپ کو دیکھاہے۔ تُم کیسے کہتے
ہو؟‘ہمیں باپ کا دیدار کرا دیجئے‘؟ 10 کیا تُمہیں یقین نہیں کہ
میں باپ میں ہُوں، اَور باپ مُجھ میں ہیں؟ میں جو باتیں تُم
سے کہتا ہُوں وہ میری طرف سے نہیں بلکہ، میرا باپ، مُجھ
میں رہ کر، اَپنا کام کرتے ہیں۔ 11 جَب مَیں کہتا ہُوں کہ
میں باپ میں ہُوں اَور باپ مُجھ میں ہیں تو یقین کرو یا کم
اَز کم میرے کاموں کا تو یقین کرو جو میرے گواہ ہیں۔
12 میں تُم سے سچ سچ کہتا ہُوں، جو مُجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ
بھی وُہی کرے گا جو میں کرتا ہُوں، بلکہ وہ اِن سے بھی
بڑے بڑے کام کرے گا، کیونکہ مَیں باپ کے پاس جا
رہا ہُوں۔ 13 جو کُچھ تُم میرا نام لے کر مانگوگے، میں
تُمہیں دُوں گا تاکہ باپ کا جلال بیٹے کے ذریعہ ظاہر ہو۔
14 تُم میرے نام سے کُچھ بھی فریاد کروگے، تو میں اُسے
ضرور پُورا کروں گا۔ 15 ”اگر تُم مُجھ سے مَحَبّت کرتے ہو تو
میرے اَحکام بجا لاؤگے۔ 16 اَور مَیں باپ سے درخواست
کروں گا، اَور وہ تُمہیں ایک اَور مددگار بخشے گا تاکہ وہ
ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے۔ (aiōn g165) 17 یعنی رُوح
حق۔ جسے یہ دُنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ تو
اُسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے۔ لیکن تُم اُسے جانتے ہو،
کیونکہ اُس کی سکونت تمہارے ساتھ ہے اَور اُس کا قِیام
تمہارے دِلوں میں ہوگا۔ 18 میں تُمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔
مَیں تمہارے پاس آؤں گا۔ 19 یہ دُنیا کُچھ دیر بعد، مُجھے نہ
دیکھ پائے گی، لیکن تُم مُجھے دیکھتے رہوگے۔ چونکہ میں
زندہ رہُوں گا، تُم بھی زندہ رہوگے۔ 20 اُس دِن تُم جان
لوگے کہ میں اَپنے باپ میں ہُوں، اَور تُم مُجھ میں ہو، اَور
مَیں تُم میں۔ 21 جِس کے پاس میرے اَحکام ہیں اَور وہ
اُنہیں مانتا ہے وُہی مُجھ سے مَحَبّت کرتا ہے، اَور وہ میرے
باپ کا پیارا ہوگا اَور مَیں بھی اُس سے مَحَبّت رکھوں گا اَور
اَپنے آپ کو اُس پر ظاہر کروں گا۔“ 22 تَب یہُوداہؔ (یہُوداہؔ
اِسکریوتی نہیں) نے کہا،”لیکن، اَے خُداوؔند، کیا وجہ ہے
کہ حُضُور آپ خُود کو ہم پر ظاہر کریں گے لیکن دُنیا پر
نہیں؟“ 23 یِسوعؔ نے جَواب میں فرمایا،”اگر کوئی مُجھ سے
مَحَبّت رکھتا ہے تو وہ میرے کلام پر عَمل کرے گا۔ میرے
باپ اُس سے مَحَبّت رکھیں گے اَور ہم اُن کے پاس آ کر اَور
اُن کے ساتھ رہیں گے۔ 24 جو مُجھ سے مَحَبّت نہیں رکھتا وہ
میرے کلام پر عَمل نہیں کرتا۔ یہ کلام جو تُم سُن رہے ہو،
میرا اَپنا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے جِس نے مُجھے بھیجا
ہے۔ 25 ”یہ ساری باتیں مَیں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے
کہیں۔ 26 لیکن وہ مددگار، یعنی پاک رُوح، جسے باپ
میرے نام سے بھیجے گا، تُمہیں ساری باتیں سِکھائے گا
اَور ہر بات جو مَیں نے تُم سے کہی ہے، یاد دِلائے گا۔
27 مَیں تمہارے ساتھ اَپنی سلامتی چھوڑے جاتا ہُوں۔ میں
اَپنی سلامتی تُمہیں دیتا ہُوں۔ جِس طرح دُنیا دیتی ہے اُس
طرح نہیں۔ چنانچہ دِلوں کو پریشان نہ ہونے دو اَور خوفزدہ
نہ ہو۔ 28 ”تُم نے مُجھے یہ کہتے سُنا،‘میں جا رہا ہُوں اَور

تمہارے پاس پھر آؤں گا۔'اگر تُم مُجھ سے مَحبّت کرتے تو
خُوش ہوتے کہ میں باپ کے پاس جا رہا ہُوں، کیونکہ
باپ مُجھ سے بڑا ہے۔ 29 مَیں نے ساری باتیں پہلے ہی تُمہیں
بتا دی ہیں تاکہ جَب وہ پُوری ہو جائیں تو تُم مُجھ پر ایمان
لاؤ۔ 30 اَب مَیں تُم سے اَور زِیادہ باتیں نہیں کرُوں گا،
کیونکہ اِس دُنیا کا حُکمراں آ رہا ہے۔ اُس کا مُجھ پر کوئی
اِختیار نہیں، 31 لیکن دُنیا کو مَعلُوم ہونا چاہئے کہ میں باپ
سے مَحبّت کرتا ہُوں اَور اُس کے ہر حُکم کی پیروی کرتا ہُوں
جِس کا باپ مُجھے حُکم دیتا ہے۔"اَب آؤ، یہاں سے چلیں۔

15 "میں انگور کی حقیقی بیل ہُوں، اَور میرا باپ باغبان
ہے۔ 2 میری جو شاخ پھل نہیں لاتی وہ اُسے کاٹ ڈالتا
ہے، اَورجو پھل لاتی ہے اُسے تراشتا ہے تاکہ وہ زِیادہ پھل
لائے۔ 3 تُم اُس کلام کے باعث جو مَیں نے تُم سے کیا
ہے پہلے ہی پاک صَاف ہو چُکے ہو۔ 4 تُم مُجھ میں قائِم
رہو تو میں بھی تُم میں قائِم رہُوں گا۔ کوئی شاخ اَپنے آپ
پھل نہیں لاتی؛ اُس شاخ کا انگور کی بیل سے پیوستہ رہنا
لازِم ہے۔ تُم بھی مُجھ میں قائِم رہے بغیر پھل نہیں لا سکتے۔
5 "انگور کی بیل میں ہُوں اَور تُم میری شاخیں ہو۔ جو مُجھ
میں قائِم رہتا ہے اَور مَیں اُس میں وہ خُوب پھل لاتا ہے؛
مُجھ سے جُدا ہوکر تُم کُچھ نہیں کر سکتے۔ 6 اگر تُم مُجھ میں
قائِم نہیں رہتے ہو، تو اُس شاخ کی طرح ہو جو دُور پھینک
دی جاتی اَور سُوکھ جاتی ہے؛ اَیسی شاخیں جمع کرکے،
آگ میں جھونکی اَور جَلا دی جاتی ہیں۔ 7 اگر تُم مُجھ میں
قائِم رہوگے اَور میرا کلام تمہارے دِل میں قائِم رہے گا، تو
جو چاہو مانگو، وہ تُمہیں دیا جائے گا۔ 8 میرے باپ کا
جلال اِس میں ہے، کہ جِس طرح تُم بہت سا پھل لاتے
ہو، اَور اَیسا کرنا تمہارے شاگرد ہونے کی دلیل ہے۔
9 "جَیسے باپ نے مُجھ سے مَحبّت کی ہے وَیسے ہی مَیں
نے تُم سے مَحبّت کی ہے۔ اَب میری مَحبّت میں قائِم رہو۔
10 جِس طرح مَیں نے اَپنے باپ کے اَحکام پر عَمل کیا ہے،
اَور اُن کی مَحبّت میں قائِم ہُوں، اُسی طرح اگر تُم بھی میرے
اَحکام بجا لاؤ گے تو میری مَحبّت میں قائِم رہو گے۔ 11 مَیں
نے یہ باتیں تُمہیں اِس لئے بتائی ہیں کہ میری خُوشی تُم
میں ہو اَور تمہاری خُوشی پُوری ہو جائے۔ 12 میرا حُکم یہ
ہے کہ جَیسے مَیں نے تُم سے مَحبّت رکھی تُم بھی ایک
دُوسرے سے مَحبّت رکھو۔ 13 اِس سے زِیادہ مَحبّت کوئی
نہیں کرتا: اَپنی جان اَپنے دوستوں کے لئے قُربان کر دے۔
14 تُم میرے دوست ہو بشرطیکہ میرے حُکم پر عَمل کرتے
رہو۔ 15 اَب سے میں تُمہیں خادِم نہیں کہُوں گا، کیونکہ
خادِم نہیں جانتا کہ اُس کا مالک کیا کرتا ہے۔ بَلکہ، مَیں
نے تُمہیں دوست مانا ہے کیونکہ سَب کُچھ جو مَیں نے باپ
سے سُنا ہے تُمہیں بَیان کر دیا ہے۔ 16 تُم نے مُجھے نہیں
چُنا، بَلکہ مَیں نے تُمہیں چُنا اَور مُقرّر کیا ہے تاکہ تُم جا کر
پھل لاؤ اَیسا پھل جو قائِم رہے تاکہ جو کُچھ تُم میرا نام لے
کر باپ سے مانگوگے وہ تُمہیں عطا کرے گا۔ 17 میں تُمہیں
حُکم دیتا ہُوں: آپَس میں مَحبّت رکھو۔ 18 "اگر دُنیا تُم سے
دُشمنی رکھتی ہے تو یاد رکھو کہ اُس نے پہلے مُجھ سے بھی
دُشمنی رکھی ہے۔ 19 اگر تُم دُنیا کے ہوتے، تو یہ دُنیا تُمہیں
اَپنوں کی طرح عزیز رکھتی۔ لیکن اَب تُم، دُنیا کے نہیں ہو
کیونکہ مَیں نے تُمہیں چُن کر دُنیا سے علیحدہ کر دیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دُنیا تُم سے دُشمنی رکھتی ہے۔ 20 میری یہ
بات یاد رکھو:'کوئی خادِم اَپنے آقا سے بڑا نہیں ہوتا۔'اگر
دُنیا والوں نے مُجھے ستایا ہے، تو وہ تُمہیں بھی ستائیں گے۔
اگر اُنہُوں نے میری بات پر عَمل کیا، تو تمہاری بات پر بھی
عَمل کریں گے۔ 21 وہ میرے نام کی وجہ سے تُم سے اِس
طرح کا سلُوک کریں گے، کیونکہ وہ میرے بھیجنے والے
کو نہیں جانتے۔ 22 اگر مَیں نے آکر اُن سے کلام نہ کیا
ہوتا، تو وہ گُنہگار نہ ٹھہرائے جاتے لیکن اَب اُن کے گُناہ
کا اُن کے پاس کوئی عُذر باقی نہیں رہا۔ 23 جو مُجھ سے
دُشمنی رکھتا ہے، میرے باپ سے بھی دُشمنی رکھتا ہے
24 اگر مَیں اُن کے درمیان وہ کام نہ کرتا جو کسی دُوسرے
نے نہیں کئے، تو وہ گُنہگار نہیں ٹھہرتے۔ لیکن اَب، اُنہُوں

نے میرے کاموں کو دیکھ لیا ہے، اَور اُنہُوں نے مُجھ سے
اَور میرے باپ دونوں سے دُشمنی رکھی ہے۔ 25 لیکن یہ
اِس لِئے ہُوا کہ اُن کی شَریعت میں لِکھّا ہُوا قول پُورا ہو
جائے:'اُنہُوں نے مُجھ سے بِلا وجہ دُشمنی رکھی۔' 26 "جَب
وہ مددگار یعنی رُوحِ حق آئے گا جسے میں باپ کی طرف
سے بھیجوں گا تو وہ میرے بارے میں گواہی دے گا۔
27 اَور تُم بھی میری بابت گواہی دوگے کیونکہ تُم شروع ہی
سے میرے ساتھ رہے ہو۔

16 "مَیں نے تُمہیں یہ ساری باتیں اِس لِئے بتائی ہیں کہ
تُم گُمراہ نہ ہو جاؤ۔ 2 وہ تُمہیں یہُودی عبادت گاہوں سے
خارج کر دیں گے، درحقیقت، اَیسا وقت آ رہا ہے کہ اگر
کوئی تُمہیں قتل کر ڈالے گا تو یہ سمجھے گا کہ وہ خُدا کی
خدمت کر رہا ہے۔ 3 وہ یہ سَب اِس لِئے کریں گے کہ نہ
تو اُنہُوں نے کبھی باپ کو جانا اَور نہ مُجھے۔ 4 مَیں نے یہ
باتیں تُمہیں اِس لِئے بتائی ہیں کہ جَب وہ پُوری ہونے لگیں
تو تُمہیں یاد آ جائے کہ مَیں نے تُمہیں پہلے ہی سے آگاہ کر
دیا تھا۔ شروع میں اِس لِئے نہیں بتائیں کہ میں خُود تمہارے
ساتھ تھا، 5 لیکن اَب مَیں اَپنے بھیجنے والے کے پاس واپس
جا رہا ہُوں اَور تُم میں سے کوئی بھی یہ نہیں پُوچھتا،'آپ
کہاں جا رہے ہیں؟' 6 چونکہ، مَیں نے تُمہیں بتا دیا ہے
اِس لِئے تُم بڑے غمگین ہو گئے ہو۔ 7 مگر میں تُم سے سچ سچ
کہتا ہُوں، میرا یہاں سے رخصت ہو جانا تمہارے حق میں
بہتر ثابت ہوگا۔ کیونکہ اگر مَیں نہ جاؤں گا، تو وہ مددگار
تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر مَیں چلا جاؤں گا، تو
اُسے تمہارے پاس بھیج دُوں گا۔ 8 جَب وہ مددگار آئے
گا، تو وہ دُنیا کو گُناہ اَور راستبازی، اَور اِنصاف کی بابت
دُنیا کو مُجرم ٹھہرائے گا: 9 گُناہ کے بارے میں، اِس لِئے
کہ لوگ مُجھ پر ایمان نہیں لاتے، 10 راستبازی کی بابت، یہ
کہ میں واپس باپ کے پاس جا رہا ہُوں، اَور تُم مُجھے پھر
نہ دیکھوگے، 11 اَور اِنصاف کی بابت یہ کہ دُنیا کا حاکم
مُجرم ٹھہرایا جا چُکا ہے۔ 12 "مُجھے تُم سے اَور بھی بہت کُچھ
کہنا ہے مگر ابھی تُم اُسے برداشت نہ کر پاؤگے۔ 13 لیکن
جَب وہ، رُوحِ حق، آئے گا، تو وہ ساری سچّائی کی طرف
تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ اَپنی طرف سے کُچھ نہ کہے
گا، بَلکہ تُمہیں صِرف وُہی بتائے گا جو وہ سُنے گا، اَور
مُستقبِل میں پیش آنے والی باتوں کی خبر دے گا۔ 14 وہ
میرا جلال ظاہر کرے گا کیونکہ وہ میری باتیں میری زبانی
سُن کر تُم تک پہُنچائے گا۔ 15 سَب کُچھ جو بھی باپ کا
ہے وہ میرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مَیں نے کہا کہ پاک
رُوح میری باتیں میری زبانی سُن کر تُم تک پہُنچائے گا۔"
16 یِسوعؔ نے فرمایا،"تھوڑی دیر بعد تُم مُجھے دیکھ نہ پاؤگے،
اَور اُس کے تھوڑی دیر بعد پھر مُجھے دیکھ لوگے۔" 17 اِس
پر بعض شاگرد آپس میں کہنے لگے،"اِس جملے کے کہنے کا
کیا مطلب ہے،'تھوڑی دیر کے بعد تُم مُجھے نہ دیکھ پاؤگے،
اَور اُس کے تھوڑی دیر بعد پھر مُجھے دیکھ لوگے،'اَور یہ
بھی کہ 'میں باپ کے پاس جا رہا ہُوں'؟" 18 چنانچہ وہ
ایک دُوسرے سے پُوچھتے رہے،"اِس جملے کا کیا مطلب
ہے'تھوڑی دیر بعد؟'ہماری سمجھ میں تو کُچھ نہیں آتا کہ
وہ کیا فرما رہے ہیں۔" 19 یِسوعؔ نے دیکھا کہ وہ اُن سے
اِس بارے میں، پُوچھنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ نے اُن سے
فرمایا،"کیا تُم آپس میں یہ پُوچھ رہے ہو، میری اِس بات کا
کیا مطلب ہے'تھوڑی دیر کے بعد تُم مُجھے نہ دیکھ پاؤگے،
اَور اُس کے تھوڑی دیر بعد پھر مُجھے دیکھ لوگے؟' 20 میں تُم
سے سچ سچ کہتا ہُوں، تُم روؤگے اَور ماتم کروگے لیکن دُنیا
کے لوگ خُوشی منائیں گے۔ تُم غمگین تو ہوگے، لیکن تمہارا
غم خُوشی میں بدل جائے گا۔ 21 جَب کسی عورت کے
درد زہ ہونے لگتا ہے تو وہ غمگین ہو جاتی ہے اِس لِئے
کہ اُس کے دُکھ کی گھڑی آ پہُنچی؛ لیکن جُوں ہی بچّہ
پیدا ہو جاتا ہے تو اِس خُوشی کے باعث کہ دُنیا میں ایک
بچّہ پیدا ہُوا ہے وہ اَپنا درد بھُول جاتی ہے۔ 22 یہی حال
تمہارا ہے: اَب تُم غمگین ہو، مگر میں تُم سے پھر ملوں گا اَور
تَب تُم خُوشی مناؤگے، اَور تُم سے تمہاری خُوشی کوئی بھی

چھین نہ سکے گا۔ 23 اُس دِن تُمہیں مُجھ سے کوئی بھی
سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ میں تُم سے سچ سچ کہتا
ہُوں کہ اگر تُم میرا نام لے کر باپ سے کُچھ مانگوگے، تو
باپ تُمہیں عطا کرے گا۔ 24 تُم نے میرا نام لے کر اَب تک
کُچھ نہیں مانگا۔ مانگو تو پاؤگے، اَور تمہاری خُوشی پُوری ہو
جائے گی۔ 25 ”اگرچہ میں یہ باتیں تُمہیں تمثیلوں کے ذریعہ
بَیان کرتا ہُوں، مگر وقت آ رہاہے کہ میں تمثیلوں سے بات
نہیں کروں گا بَلکہ میں اَپنے باپ کے بارے میں تُم سے
واضح طور پر باتیں کروں گا۔ 26 اُس دِن تُم میرا نام لے کر
مانگوگے۔ میں ھی تمہاری خاطِر باپ سے مِنّت کروں گا۔
27 کیونکہ، باپ تو خُود تُم سے مَحَبّت رکھتا ھے اِس لئے کہ
تُم نے مُجھ سے مَحَبّت رکھی ھے اَور تُم ایمان لائے ہو کہ
میں خُدا کی طرف سے آیا ہُوں۔ 28 میں باپ میں سے نکل
کر دُنیا میں آیا ہُوں، اَب دُنیا سے رخصت ہوکر باپ کے
پاس واپس جا رہا ہُوں۔“ 29 اِس پر شاگردوں نے آپ سے
کہا،”اَب تو آپ تمثیلوں میں نہیں بَلکہ واضح طور باتیں بَیان
کر رہے ہیں۔ 30 اَب ہم نے جان لیا کہ آپ کو سَب کُچھ
مَعلُوم ھے اَور آپ اِس کے مُحتاج نہیں کہ کوئی آپ سے
پُوچھے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ خُدا کی طرف سے آئے
ہیں۔“ 31 یِسوعؔ نے اُنہیں جَواب دیا،”کیا اَب تُم مُجھ پر ایمان
رکھتے ہو؟ 32 لیکن وہ وقت آ رہاہے بَلکہ آ پہُنچا ھے کہ تُم
سَب مُنتشر ہوکر، اَپنے اَپنے گھر کی راہ لوگے۔ مُجھے تنہا
چھوڑ دوگے، پھر بھی میں تنہا نہیں، کیونکہ میرا باپ میرے
ساتھ ھے۔ 33 ”مَیں نے تُم سے یہ باتیں اِس لئے بتائیں کہ تُم
مُجھ میں اِطمینان پاؤ۔ تُم دُنیا میں مُصیبت اُٹھاتے ہو۔ مگر
ہِمّت سے کام لو! میں دُنیا پر غالب آیا ہُوں۔“

17 جَب یِسوعؔ یہ سَب کہہ چُکے، تو آپ نے آسمان کی
طرف آنکھیں اُٹھا کر یہ دعا کی:”اَے باپ، اَب وقت آ گیا
ھے۔ اَپنے بیٹے کو جلال بخشئے، تاکہ بیٹا آپ کا جلال ظاہر
کرے۔ 2 کیونکہ آپ نے اُسے تمام اِنسانوں پر اِختیار بخشا
ھے تاکہ وہ اُن سَب کو اَبدی زندگی عطا کرے جو آپ نے
اُس کے سُپرد کی ھے۔ (aiōnios g166) 3 اَبدی زندگی یہ ھے
کہ وہ آپ کو حقیقی سچّا خُدا جانیں، اَور یِسوعؔ المسیح کو
بھی جانیں جسے آپ نے بھیجا ھے۔ (aiōnios g166) 4 مَیں
نے اِس کام کو جو آپ نے میرے سُپرد کیا تھا اُس کام
کو اَنجام دے کر مَیں نے زمین پر آپ کا جلال ظاہر کیا۔
5 اَور اَب، اَے باپ، آپ مُجھے اَپنی حُضُوری میں اُسی
جلال سے جلالی بنا دیں جو جلال میرا آپ کے ساتھ میں
دُنیا کی تخلیق ہونے سے پہلے تھا۔ 6 ”مَیں نے آپ کو اُن
لوگوں پر ظاہر کیا جنہیں آپ نے دُنیا میں سے چُن کر میری
سپردگی میں دیا تھا۔ وہ آپ کے لوگ تھے؛ آپ نے اُنہیں
میرے سُپرد کیا تھا اَور اُنہُوں نے آپ کے کلام پر عَمل کیا
ھے۔ 7 اَب وہ جانتے ہیں کہ جو کُچھ آپ نے مُجھے دیا ھے
وہ سَب آپ ھی کی طرف سے ھے۔ 8 اِس لئے جو پیغام
آپ نے مُجھے دیا، مَیں نے اُن تک پہُنچا دیا اَور اُنہُوں نے
اُسے قبُول کیا اَور وہ اِس حقیقت سے واقف ہو گئے کہ مَیں
آپ کی طرف سے آیا ہُوں اَور اُن کا ایمان ھے کہ مُجھے آپ
ھی نے بھیجا ھے۔ 9 میں اُن کے لئے دعا کرتا ہُوں۔ میں
دُنیا کے لئے دعا نہیں کرتا بَلکہ اُن کے لئے جنہیں آپ نے
مُجھے دیا ھے، کیونکہ وہ آپ کے ہیں۔ 10 میرا سَب کُچھ
آپ کا ھے اَورجو آپ کا ھے، وہ سَب میرا ھے۔ اَور اُن
کے وسیلے سے مُجھے جلال مِلا۔ 11 میں اَب اَور دُنیا میں
نہیں رہُوں گا، لیکن وہ تمام ابھی دُنیا میں ہیں اَور مَیں آپ
کے پاس آ رہا ہُوں۔ اَے قُدُّوس باپ، اَپنے اُس نام کی
قُدرت سے جو آپ نے مُجھے دیا ھے اِنہیں محفوظ رکھئے
تاکہ وہ ایک ہُوں جَیسے ہم ایک ہیں۔ 12 جَب مَیں اُن
کے ساتھ تھا، مَیں نے اُن کو محفوظ رکھا اَور اُنہیں آپ کے
دئیے ہوئے نام کے ذریعہ بچائے رکھا۔ اُن میں سے کوئی
ہلاک نہیں ہُوا سِوائے اُس کے جو ہلاکت کے لئے ھی
پیدا ہُوا تھا تاکہ کِتاب مُقدّس کا لِکھّا پُورا ہو۔ 13 ”اَب مَیں
آپ کے پاس آ رہا ہُوں لیکن جَب تک میں دُنیا میں ہُوں یہ
باتیں کہہ رہا ہُوں، تاکہ میری ساری خُوشی اُنہیں حاصل

ہو جائے۔ 14 مَیں نے اُنہیں آپ کا کلام پہنچا دیا ہے اَور
دُنیا نے اُن سے دُشمنی رکھی، کیونکہ جِس طرح میں دُنیا
کا نہیں وہ بھی دُنیا کے نہیں۔ 15 میری مِنّت یہ نہیں کہ
باپ اُنہیں دُنیا سے اُٹھالے بَلکہ یہ ہے کہ اُنہیں شیطان سے
محفوظ رکھے۔ 16 جِس طرح میں دُنیا کا نہیں، وہ بھی دُنیا
کے نہیں۔ 17 حق کے ذریعہ اُنہیں مخصُوص کر دیجئے؛ آپ
کا کلام ہی حق ہے۔ 18 جِس طرح باپ نے مُجھے دُنیا
میں بھیجا، اُسی طرح مَیں نے بھی اُنہیں دُنیا میں بھیجا ہے۔
19 میں اَپنے آپ کو اُن کے لِئے مخصُوص کرتا ہُوں، تاکہ وہ
بھی حق کے ذریعہ مخصُوص کیٔے جائیں۔ 20 "میری مِنّت
صِرف اِن کے لِئے ہی نہیں بَلکہ اُن کے لِئے بھی ہے جو اِن
کے پیغام کے ذریعہ مُجھ پر ایمان لائیں گے، 21 تاکہ وہ سَب
ایک، ہو جائیں جَیسے اَے باپ، آپ مُجھ میں ہیں اَور مَیں
آپ میں۔ کاش وہ بھی ہم میں ہوں تاکہ ساری دُنیا ایمان
لائے کہ آپ ہی نے مُجھے بھیجا ہے۔ 22 مَیں نے اُنہیں وہ
جلال بخشا ہے جو باپ نے مُجھے عطا کیا تھا تاکہ وہ بھی
ایک ہوں جِس طرح ہم ایک ہیں، 23 میں اُن میں اَور آپ
مُجھ میں، تاکہ وہ کامِل طور پر ایک ہو جائیں۔ اَور تَب دُنیا
جان لے گی کہ آپ ہی نے مُجھے بھیجا اَور اُن سے بھی
اِسی طرح مَحَبّت کی ہے جِس طرح آپ نے مُجھ سے مَحَبّت
رکھی۔ 24 "اَے باپ، آپ نے جنہیں مُجھے دیا ہے میں
چاہتا ہُوں کہ جہاں میں ہُوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں،
اَور اُس جلال کو دیکھ سکیں جو آپ نے مُجھے عطا کیا،
کیونکہ آپ نے دُنیا کی تخلیق سے پیشتر ہی مُجھ سے مَحَبّت
رکھی۔ 25 "اَے راستباز باپ، اگرچہ دُنیا نے آپ کو نہیں
جانا، مگر مَیں آپ کو جانتا ہُوں، اَور اِنہُوں نے بھی جان لیا
ہے کہ آپ نے مُجھے بھیجا ہے۔ 26 مَیں نے اِنہیں آپ کے
نام سے واقف کرا دیا ہے اَور آئندہ بھی کراتا رہُوں گا تاکہ
آپ کی وہ مَحَبّت جو آپ نے مُجھ سے کی وہ اُن میں ہو اَور
مَیں بھی اِن میں ہُوں۔"

18

جَب یِسوعؔ دعا کرکے فارغ ہوئے، تو وہ اَپنے
شاگردوں کے ساتھ باہر آئے اَور وہ سَب قِدرُونؔ کی وادی
کو پار کرکے ایک باغ میں چلے گئے۔ 2 حُضُور کا پکڑوانے
والا یہُوداہؔ، اُس جگہ سے واقف تھا کیونکہ یِسوعؔ کئی بار
اَپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جا چُکے تھے۔ 3 پس یہُوداہؔ
باغ میں داخل ہُوا، اَور یہُوداہؔ کے ساتھ چند رُومی فَوجی
دستہ اَور اہم کاہِنوں اَور فریسیوں کے کچھ عہدیدار بھیجے
گیٔے تھے۔ وہ اَپنے ہاتھوں میں مشعلیں، لالٹینیں اَور اسلحہ
لِئے ہوئے تھے۔ 4 یِسوعؔ، خُوب جانتے تھے کہ اُن کے ساتھ
کیا ہونے والا ہے، لہٰذا وہ باہر آکر اُن سے پُوچھنے لگے،"تُم
کسے ڈھونڈتے ہو؟" 5 اُنہُوں نے جَواب دیا،"یِسوعؔ ناصری
کو۔"یِسوعؔ نے فرمایا،"میں وُہی ہُوں،"(اَور اُن کا پکڑوانے
والا یہُوداہؔ بھی اُن کے ساتھ کھڑا تھا۔) 6 جَب یِسوعؔ نے
فرمایا،"میں وُہی ہُوں،"تو سَب گھبرا کر پیچھے ہٹے اَور زمین
پر گِر پڑے۔ 7 چنانچہ حُضُور نے دُوسری مرتبہ پُوچھا،"تُم
کسے ڈھونڈتے ہو؟"اُنہُوں نے کہا،"یِسوعؔ ناصری کو۔"
8 یِسوعؔ نے جَواب دیا،"مَیں نے کہہ تو دیا کہ میں وُہی
ہُوں۔ اگر تُم مُجھے ڈھونڈتے ہو، تو میرے شاگردوں کو
جانے دو۔" 9 اِس سے حُضُور کی غرض یہ تھی کہ وہ قول
پُورا ہو جائے:"جنہیں آپ نے مُجھے دیا تھا مَیں نے اُن میں
سے کسی ایک کو بھی نہیں کھویا۔" 10 شمعُونؔ پطرس کے
پاس ایک تلوار تھی، پطرس نے وہ تلوار کھینچی اَور اعلیٰ
کاہِن کے خادِم پر چلا کر، اُس کا داھنا کان اُڑا دیا۔ (اُس
خادِم کا نام مَلخُس تھا۔) 11 یِسوعؔ نے پطرس کو حُکم
دیا،"اَپنی تلوار مِیان میں رکھو! کیا میں وہ پیالہ نہ پیوں جو
میرے باپ نے مُجھے دیا ہے؟" 12 تَب رُومی سپاھیوں، اُن
کے سپہ سالار اَور یہُودی حُکاّم نے یِسوعؔ کو گرفتار کر
لیا اَور اُن کے ہاتھ باندھ کر 13 اُنہیں پہلے حنّاؔ کے پاس
لے گیٔے جو کائِفؔا کا سسُر تھا۔ کائِفؔا اُس سال اعلیٰ کاہِن
تھا۔ 14 اَور کائِفؔا نے یہُودی رہنماؤں کو صلاح دی تھی
کہ ساری قوم کی ہلاکت سے یہ بہتر ہے کہ ایک شخص

ماراجائے۔ 15 شمعُونؔ پطرس اَور ایک اَور شاگرد یِسوعؔ
کے پیچھے پیچھے گئے۔ یہ شاگرد اعلیٰ کاہِن سے واقف تھا،
اِس لئے وہ آپ کے ساتھ اعلیٰ کاہِن کی حویلی میں داخل
ہو گیا، 16 لیکن پطرس کو باہر پھاٹک پر ہی رُک جانا
پڑا۔ یہ شاگرد جو اعلیٰ کاہِن کا واقف کار تھا، واپس آیا،
اَور اُس خادِمہ سے جو پھاٹک پر نِگرانی کرتی تھی، بات
کرکے پطرس کو اَندر لے گیا۔ 17 خادِمہ نے پھاٹک پر
پطرس سے پُوچھا، ”کیا تُو اُن کے شاگردوں میں سے ایک نہیں
ہے؟“ پطرس نے کہا، ”نہیں، میں نہیں ہُوں۔“ 18 سردی کی
وجہ سے، خادِموں اَور سپاہیوں نے آگ جَلا رکھی تھی
اَور وہ چاروں طرف کھڑے ہوکر آگ تاپ رہے تھے۔
پطرس بھی اُن کے ساتھ کھڑے ہوکر آگ تاپنے لگے۔
19 اِس دَوران، اعلیٰ کاہِن یِسوعؔ سے اُن کے شاگردوں اَور
اُن کی تعلیم کے بارے میں پُوچھنے لگا۔ 20 یِسوعؔ نے جَواب
دیا، ”مَیں نے دُنیا سے کھُلے عام باتیں کی ہیں، میں ہمیشہ
یہُودی عبادت گاہوں اَور بیت المُقدّس میں تعلیم دیتا رہا
ہُوں، جہاں تمام یہُودی جمع ہوتے ہیں۔ مَیں نے پوشیدہ
کبھی بھی کُچھ نہیں کہا۔ 21 آپ مُجھ سے کیوں سوال پُوچھتے
ہیں؟ جنہوں نے میری باتیں سُنی ہیں اُن سے پُوچھیئے۔ وہ
خُوب جانتے ہیں کہ مَیں نے کیا کُچھ کہا ہے۔“ 22 حُضور
کے اَیسا کہنے پر سپاہیوں میں سے ایک نے جو پاس ہی
کھڑا تھا، یِسوعؔ کو تھپّڑ مارا اَور کہا، ”کیا اعلیٰ کاہِن کو
جَواب دینے کا یہی طریقہ ہے؟“ 23 یِسوعؔ نے جَواب
دیا، ”اگر مَیں نے کُچھ بُرا کہا تو، اُسے بُرا ثابت کیجئے۔ لیکن
اگر اَچھّا کہا ہے، تو تھپّڑ کیوں مارتے ہو؟“ 24 اِس پر حنّاؔ
نے یِسوعؔ کے ہاتھ بندھوا کر آپ کو اعلیٰ کاہِن کائفؔا کے
پاس بھیج دیا۔ 25 جَب، شمعُونؔ پطرس کھڑے ہوئے آگ
تاپ رہے تھے تو کسی نے اُن سے پُوچھا، ”کیا تُو بھی اُن
کے شاگردوں میں سے ایک نہیں ہے؟“ پطرس نے اِنکار
کرتے ہوئے کہا، نہیں، ”میں نہیں ہُوں۔“ 26 اعلیٰ کاہِن کے
سپاہیوں میں سے ایک جو اُس خادِم کا رشتہ دار تھا جِس
کا کان پطرس نے تلوار سے اُڑا دیا تھا، پطرس سے پُوچھنے
لگا، ”کیا مَیں نے تُمہیں اُن کے ساتھ باغ میں نہیں دیکھا؟“
27 پطرس نے پھر اِنکار کیا، اَور اُسی وقت مُرغ نے بانگ
دی۔ 28 وہ صُبح سویرے ہی یِسوعؔ کو کائفؔا کے پاس سے
رُومی گورنر کے محل میں لے گئے۔ یہُودی رہنما محل کے
اَندر نہیں گئے۔ اُنہیں خوف تھا کہ وہ ناپاک ہو جائیں گے
اَور عیدِفسح کا کھانا نہ کھا سکیں گے۔ 29 لہٰذا پِیلاطُسؔ
اُن کے پاس باہر آیا اَور کہنے لگا، ”تُم اِس شخص پر کیا اِلزام
لگاتے ہو؟“ 30 اُنہُوں نے جَواب دیا، ”اگر وہ مُجرم نہ ہوتا تو
ہم اِسے یہاں لا کر آپ کے سامنے کیوں پیش کرتے۔“
31 پِیلاطُسؔ نے کہا، ”تُم اِسے لے جاؤ اَور اَپنی شَریعت کے
مُطابق خُود ہی اِس کا فیصلہ کرو۔“ یہُودیوں نے کہا، ”لیکن
ہمیں تو کسی کو بھی قتل کرنے کا اِختیار نہیں ہے۔“ 32 یہ
اِس لئے ہُوا کہ وہ کلام پُورا ہو جو یِسوعؔ نے فرمایا تھا کہ
آپ کی موت کِس طرح کی ہوگی۔ 33 تَب پِیلاطُسؔ محل
کے اَندر چلا گیا، اَور اُس نے یِسوعؔ کو وہاں طلب کرکے
آپ سے پُوچھا، ”کیا آپ یہُودیوں کے بادشاہ ہیں؟“ 34 یِسوعؔ
نے جَواب دیا، ”تُم یہ بات اَپنی طرف سے کہتے ہو، یا اَوروں
نے میرے بارے میں تُمہیں یہ خبر دی ہے؟“ 35 پِیلاطُسؔ
نے جَواب دیا، ”کیا میں کوئی یہُودی ہُوں؟ تمہاری قوم نے
اَور اہم کاہِنوں نے آپ کو میرے حوالہ کیا ہے۔ بتائیے آخِر
آپ نے کیا کیا ہے؟“ 36 یِسوعؔ نے فرمایا، ”میری بادشاہی
اِس دُنیا کی نہیں۔ اگر دُنیا کی ہوتی، تو میرے خادِم جنگ
کرتے اَور مُجھے یہُودی رہنماؤں کے ہاتھوں گرفتار نہ ہونے
دیتے۔ لیکن ابھی میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے۔“ 37 پَس
پِیلاطُسؔ نے کہا، ”تو کیا آپ ایک بادشاہ ہیں۔“ یِسوعؔ نے
جَواب دیا، ”یہ تو آپ کا کہنا ہے کہ میں ایک بادشاہ
ہُوں۔ دراصل، میں اِس لئے پیدا ہُوا اَور اِس مقصد سے
دُنیا میں آیا کہ حق کی گواہی دُوں۔ ہر کوئی جو حق
کی طرف ہے میری بات سُنتا ہے۔“ 38 پِیلاطُسؔ نے
پُوچھا، ”حق کیا ہے؟“ یہ کہتے ہی وہ پھر یہُودیوں کے پاس

گیا اَور کہنے لگا،”میں تو اِس شخص کو مُجرم نہیں سمجھتا۔
39 لیکن تمہارے دستور کے مُطابق میں عیدِفسح کے موقع
پر تمہارے لِئے ایک قَیدی کو رِہا کر دیتا ہُوں۔ کیا تُم
چاہتے ہو کہ مَیں تمہارے لِئے ’یہُودیوں کے بادشاہ‘ کو چھوڑ
دُوں؟“ 40 وہ پھر چِلّانے لگے،”نہیں، اِسے نہیں، ہمارے
لِئے بَراَبّا کو رِہا کر دیجئے!“جَب کہ بَراَبّا ایک باغی تھا۔

19 تَب پِیلاطُسؔ نے یِسوعؔ کو لے جا کر کوڑے
لگوائے 2 اَور فَوج کے سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنایا
اَور آپ کے سَر پر رکھا اَور آپ کو سُرخ رنگ کا چوغہ
پہنا دیا۔ 3 وہ بار بار حُضُور کے سامنے جاتے اَور کہتے
تھے،”اَے یہُودیوں کے بادشاہ، آداب!“اَور آپ کے مُنہ پر
تھپّڑ مارتے تھے۔ 4 پِیلاطُسؔ ایک بار پھر باہر آیا اَور یہُودیوں
سے کہنے لگا،”دیکھو، مَیں اِنہیں تمہارے پاس باہر لا رہا
ہُوں۔ تُمہیں مَعلُوم ہو کہ میں تو اِس شخص کو مُجرم نہیں
سمجھتا۔“ 5 جَب یِسوعؔ کانٹوں کا تاج سَر پر رکھے اَور سُرخ
چوغہ پہنے ہُوئے باہر آئے، تو پِیلاطُسؔ نے یہُودیوں سے
کہا،”یہ رہا وہ آدمی!“ 6 اہم کاہِن اَور اُن کے سپاہی آپ
کو دیکھتے ہی، چِلّانے لگے،”اِسے مصلُوب کرو! اِسے
مصلُوب کرو!“لیکن پِیلاطُسؔ نے جَواب دیا،”تُم ہی اِسے
لے جاؤ اَور صلیب دو۔ جہاں تک میرا تعلّق ہے، میں
اِس میں مُجرم ٹھہرانے کا کوئی قُصُور نہیں پاتا۔“ 7 یہُودی
رہنما اِصرار کرنے لگے،”ہم اہلِ شَریعت ہیں، اَور ہماری
شَریعت کے مُطابق وہ واجِبُ القتل ہے، کیونکہ اِس نے
کہا ہے کہ وہ خُدا کا بیٹا ہے۔“ 8 جَب پِیلاطُسؔ نے
یہ سُنا، تو وہ اَور بھی خوفزدہ ہو گیا، 9 اَور پِیلاطُسؔ نے
دوبارہ محل میں جا کر پُوچھا،”آپ کہاں کے ہو؟“لیکن
یِسوعؔ نے پِیلاطُسؔ کو کُچھ جَواب نہیں دیا۔ 10 پِیلاطُسؔ
نے یِسوعؔ سے کہا،”کیا آپ کو پتا نہیں کہ مُجھے اِختیار
ہے کہ آپ کو چھوڑ دُوں یا مصلُوب کر دُوں؟“ 11 یِسوعؔ
نے جَواب دیا،”اگر یہ اِختیار آپ کو اُوپر سے نہ مِلا ہوتا
تو آپ کا مُجھ پر کوئی اِختیار نہ ہوتا۔ مگر جِس شخص
نے مُجھے آپ کے حوالہ کیا ہے وہ اَور بھی بڑے گُناہ کا
مُرتکب ہُواہے۔“ 12 اِس کے بعد پِیلاطُسؔ نے یِسوعؔ کو
چھوڑدینے کی کوشش کی، لیکن یہُودی رہنما چِلّا چِلّاکر
کہنے لگے،”اگر آپ نے اِس شخص کو رِہا کر دیا تو آپ
شَہنشاہ قَیصؔر کے خیرخواہ نہیں۔ اگر کوئی بھی اَپنے بادشاہ
ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ شَہنشاہ قَیصؔر کا مُخالف سمجھا
جاتا ہے۔“ 13 جَب پِیلاطُسؔ نے یہ سُنا تو اُس نے یِسوعؔ
کو باہر بُلایا اَور اَپنے تختِ عدالت پر بیٹھ گیا جو ایک سنگی
چبُوترے پر قائم تھا جسے عِبرانی زبان میں گَبّتھا کہتے ہیں۔
14 یہ عیدِفسح کی تیّاری کا دِن تھا، اَور تقریباً دوپہر کا
وقت تھی۔ پِیلاطُسؔ نے یہُودیوں سے کہا،”یہ رہا تمہارا
بادشاہ۔“ 15 لیکن وہ چِلّائے،”اِسے یہاں سے لے جاؤ! لے
جاؤ! اَور اِسے مصلُوب کرو!“پِیلاطُسؔ نے کہا،”کیا میں اِسے
جو تمہارا بادشاہ ہے مصلُوب کر دُوں؟“اہم کاہِنوں نے
کہا،”قَیصؔر کے سِوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔“ 16 اِس پر
پِیلاطُسؔ نے یِسوعؔ کو اُن کے حوالہ کر دیا تاکہ حُضُور کو
مصلُوب کیا جائے۔ چنانچہ سپاہی اُنہیں اَپنے قبضہ میں
لے کر وہاں سے چلے گیٔے۔ 17 یِسوعؔ اَپنی صلیب اُٹھا کر،
کھوپڑی نامی جگہ کی طرف روانہ ہُوئے (جسے عِبرانی زبان
میں گُلگُتا کہتے ہیں)۔ 18 وہاں اُنہوں نے داہنی اَور بائیں
طرف دو ڈاکوؤں کو اَور درمیان میں یِسوعؔ کو صلیب پر
مصلُوب کر دیا۔ 19 پِیلاطُسؔ نے ایک کتبہ تیّار کروا کر
صلیب پر لگا دیا۔ اُس پر یہ تحریر تھا: یِسوعؔ ناصری، یہُودیوں
کا بادشاہ 20 کئی یہُودیوں نے یہ کتبہ پڑھا، کیونکہ جِس
جگہ یِسوعؔ کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا وہ شہر کے نزدیک ہی
تھی، اَور کتبہ کی عبارت عِبرانی، لاطینی اَور یُونانی تینوں
زبانوں میں لکھی گئی تھی۔ 21 یہُودیوں کے اہم کاہِنوں
نے پِیلاطُسؔ سے درخواست کی،”یہُودیوں کا بادشاہ نہ لِکھ
بَلکہ یہ اُس کا دعویٰ تھا،’میں یہُودیوں کا بادشاہ،‘ہُوں۔“
22 پِیلاطُسؔ نے جَواب دیا،”مَیں نے جو کُچھ لِکھ دیا، وہ
لِکھ دیا۔“ 23 جَب سپاہی حُضُور کو مصلُوب کر چُکے، تو

اُنہُوں نے یِسُوعؔ کے کپڑے لِئے، اَور اُن کے چار حِصّے کِئے
تا کہ ہر ایک کو، ایک ایک حِصّہ مِل جائے، صِرف اُن
کا کُرتہ، باقی رہ گیا جو بغیر کسی جوڑ کے اُوپر سے نیچے
تک بُنا ہُوا تھا۔ 24 اُنہُوں نے آپس میں طے کیا۔”اِس کو
پھاڑنے کے بجائے، اُس پر قُرعہ ڈال کر دیکھیں کہ یہ کِس
کے حِصّہ میں آتا ہے۔“یہ اِس لِئے ہُوا کہ کِتاب مُقدّس کا
لِکھّا ہُوا قول پُورا ہو جائے،”اُنہُوں نے میرے کپڑے آپس
میں تقسیم کر لِئے اَور میری پوشاک پر قُرعہ ڈالا۔“چنانچہ
سپاہیوں نے یہی کیا۔ 25 یِسُوعؔ کی صلیب کے پاس اُن کی
ماں، ماں کی بہن، مریمؔ جو کلوپاسؔ کی بیوی تھی، اَور
مریمؔ مگدلِینیؔ کھڑی تھیں۔ 26 جَب یِسُوعؔ نے اَپنی ماں کو،
اَور اَپنے ایک عزیز شاگرد کو نزدیک ہی کھڑے دیکھا،
تو ماں سے کہا، اَے خاتُون، اَب سے آپ کا بیٹا یہ ہے،
27 اَور شاگرد سے فرمایا،”اَب سے تمہاری ماں یہ ہیں۔“وہ
شاگرد تَب سے، اُنہیں اَپنے گھر لے گیا۔ 28 جَب، یِسُوعؔ نے
جان لیا کہ اَب سَب باتیں تمام ہوئیں، تو اِس لِئے کہ کِتاب
مُقدّس کا لِکھّا پُورا ہو، آپ نے کہا،”میں پیاسا ہُوں۔“
29 نزدیک ہی ایک مرتبان سِرکے سے بھرا رکھا تھا، اُنہُوں
نے اِسفَنج کو سِرکے میں ڈُبو کر زُوفے کی ڈالی پر رکھ
کر، یِسُوعؔ کے ہونٹوں سے لگایا۔ 30 یِسُوعؔ نے اُسے پینے ہی،
فرمایا،”پُورا ہُوا“اَور سَر جھُکا کر جان دے دی۔ 31 یہ
فسح کی تیّاری کا دِن تھا، اَور اگلے دِن خصوصی سَبت
تھا۔ یہُودی رہنما نہیں چاہتے تھے کہ سَبت کے دِن لاشیں
صلیبوں پر ٹنگی رہیں، لہٰذا اُنہُوں نے پِیلاطُسؔ کے پاس
جا کر درخواست کی کہ مُجرموں کی ٹانگیں توڑ کر اُن کی
لاشوں کو نیچے اُتار لیا جائے۔ 32 چنانچہ سپاہی آئے اَور
اُنہُوں نے پہلے اُن دو آدمیوں کی ٹانگیں توڑیں جنہیں حُضُور
کے ساتھ مصلُوب کیا گیا تھا۔ 33 لیکن جَب یِسُوعؔ کی باری
آئی تو اُنہُوں نے دیکھا کہ وہ تو پہلے ہی مَر چُکے ہیں لہٰذا
اُنہُوں نے آپ کی ٹانگیں نہ توڑیں۔ 34 مگر، سپاہیوں میں سے
ایک نے اَپنا نیزہ لے کر یِسُوعؔ کے پہلو میں مارا، اَور آپ کی
پسلی چھید ڈالی جِس سے فوراً خُون اَور پانی بہنے لگا۔ 35 جو
شخص اِس واقعہ کا چشم دید گواہ ہے وہ گواہی دیتا ہے،
اَور اُس کی گواہی سچّی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ سچ کہہ
رہا ہے، تا کہ تُم بھی ایمان لاؤ۔ 36 یہ ساری باتیں اِس لِئے
ہوئیں کہ کِتاب مُقدّس کا لِکھّا قول پُورا ہو جائے:”اُس
کی کوئی بھی ہڈّی نہ توڑی جائے گی،“ 37 اَور کِتاب
مُقدّس ایک اَور جگہ بَیان کرتی ہے،”وہ یِسُوعؔ پر جسے اُنہُوں
نے چھید ڈالا نظر کریں گے۔“ 38 اِن باتوں کے بعد، ایک
شخص یُوسیفؔ جو اِرمَتیاؔہ کا باشِندہ تھا، پِیلاطُسؔ کے پاس
گیا اَور اُن سے یِسُوعؔ کی لاش کو لے جانے کی اِجازت
مانگی۔ یہ شخص یہُودی رہنماؤں کے ڈر کی وجہ سے خُفیہ
طور پر حُضُور کا شاگرد تھا، وہ پِیلاطُسؔ سے مِنّت کرکے،
حُضُور کی لاش کو لے گیا۔ 39 نِیکُودِیمُسؔ بھی آیا، جِس
نے کُچھ عرصہ پہلے یِسُوعؔ سے رات میں مُلاقات کی تھی۔
نِیکُودِیمُسؔ اَپنے ساتھ مُر اَور عُود اَیسی چیزوں سے بنا ہُوا
خُوشبودار مَسالہ لایاتھا جو وزن میں تقریباً چونتیس کِلو کے
برابر تھا۔ 40 اُن دونوں نے یِسُوعؔ کی لاش کو لے کر، اُنہیں
اِن خُوشبودار مَسالے، سمیت ایک سُوتی چادر میں کفنایا،
جِس طرح یہُودیوں میں دفن کرنے کا دستور تھا۔ 41 جِس
مقام پر یِسُوعؔ کو مصلُوب کیا گیا تھا، وہاں ایک باغ تھا، اَور
اُس باغ میں ایک نئی قبر تھی، جِس میں کبھی کسی کو
دفنایا نہیں گیا تھا۔ 42 چونکہ یہ یہُودیوں کی تیّاری کا دِن تھا
اَور قبر نزدیک تھی، اُنہُوں نے یِسُوعؔ کو وہاں رکھ دیا۔

20 ہفتہ کے پہلے دِن صُبح سویرے، جَب کہ اَندھیرا
ہی تھا، مریمؔ مگدلِینیؔ قبر پر آئیں۔ اُنہُوں نے یہ دیکھا کہ
قبر کے مُنہ سے پتّھر ہٹا ہُوا ہے۔ 2 وہ دَوڑتی ہوئی شمعُونؔ
پطرس اَور اُن دُوسرے شاگرد کے پاس پہنچیں، جو یِسُوعؔ
کا چہیتا تھا، اَور کہنے لگیں،”وہ خُداوؔند کو قبر سے نکال
کر لے گئے ہیں، اَور پتا نہیں کہاں رکھ دیا ہے!“ 3 یہ سُنتے
ہی پطرس اَور وہ دُوسرا شاگرد قبر کی طرف چل دئیے۔
4 دونوں دَوڑے جا رہے تھے لیکن وہ دُوسرا شاگرد، پطرس

سے آگے نکل گیا اَور قبر پر اُس سے پہلے جا پہُنچا۔ 5 اُس
نے جُھک کر اَندر جھانکا اَور سُوتی کپڑے پڑے دیکھے
لیکن اَندر نہیں گیا۔ 6 اِس دَوران شمعُونؔ پطرس بھی پیچھے
پیچھے وہاں پہُنچ گیٔے اَور سیدھے قبر میں داخل ہو گئے۔
اُنہُوں نے دیکھا کہ وہاں سُوتی کپڑے پڑے ہویٔے ہیں،
7 اَور کفن کا وہ رُومال بھی جو یِسوعؔ کے سَر پر لپیٹا گیا تھا۔
سُوتی کپڑوں سے الگ ایک جگہ تہ کیا ہُوا، پڑا تھا۔ 8 تَب
وہ دُوسرا شاگرد بھی، جو قبر پر پہلے پہُنچا تھا، اَندر داخل
ہُوا۔ اُس نے بھی دیکھ کر یقین کیا۔ 9 کیونکہ وہ ابھی تک
کِتاب مُقدّس کی اِس بات کو سمجھ نہ پایٔے تھے جِس
کے مُطابق یِسوعؔ کا مُردوں میں سے جی اُٹھنا لازمی تھا۔
10 تَب یہ شاگرد واپس گھر چلے گئے۔ 11 لیکن مریمؔ قبر
کے باہر کھڑی ہوئی رو رہی تھیں۔ روتے روتے، مریمؔ
نے جُھک کر قبر کے اَندر نظر کی 12 تو وہاں مریمؔ کو
دو فرشتے دِکھائی دیئے جو سفید لباس میں تھے، اَور جہاں
یِسوعؔ کی لاش رکھی گئی تھی، وہاں ایک کو سرھانے
اَور دُوسرے کو پینتانے بیٹھے دیکھا۔ 13 اُنہُوں نے مریمؔ
سے پُوچھا، ”اَے عورت، تُم کیوں رو رہی ہو؟“ مریمؔ نے
کہا، ”میرے خُداوندؔ کو اُٹھا کر لے گئے ہیں اَور پتا نہیں
اُنہیں کہاں رکھ دیا ہے۔“ 14 یہ کہتے ہی، وہ پیچھے مُڑیں
اَور وہاں یِسوعؔ کو کھڑا دیکھا، لیکن پہچان نہ سکیں کہ
وہ یِسوعؔ ہیں۔ 15 یِسوعؔ نے فرمایا، ”اَے خاتُون، تُم کیوں
رو رہی ہو؟ تُم کسے ڈھونڈتی ہے؟“ مریمؔ نے سمجھا شاید
وہ باغبان ہے، اِس لیٔے کہا، ”جَناب، اگر آپ نے اِنہیں
یہاں سے اُٹھایا ہے، تو مُجھے بتائیں کہ اُنہیں کہاں رکھا
ہے، تاکہ میں اُنہیں لے جاؤں۔“ 16 یِسوعؔ نے اُن سے
فرمایا، ”مریمؔ۔“ وہ اُن کی طرف مُڑیں اَور عِبرانی زبان میں
بولیں، ”ربُّونی!“ (جِس کا مطلب میرے ”اُستاد“)۔ 17 یِسوعؔ
نے فرمایا، ”مُجھے تھامے مت رہو، کیونکہ مَیں ابھی باپ کے
پاس اُوپر نہیں گیا ہُوں۔ بلکہ جاؤ اَور میرے بھائیوں کو
خبر کر دو، ’میں اَپنے باپ اَور تمہارے باپ، اَپنے خُدا اَور
تمہارے خُدا کے پاس اُوپر جا رہا ہُوں۔‘“ 18 مریمؔ مگدلینیؔ
نے شاگردوں کے پاس آ کر اُنہیں خبر دی: ”مَیں نے خُداوندؔ
کو دیکھاہے!“ اَور اُنہُوں نے مُجھ سے یہ باتیں کیں۔ 19 ہفتہ
کے پہلے دِن شام کے وقت، جَب شاگرد ایک جگہ جمع
تھے، اَور یہُودی رہنماؤں کے خوف سے دروازے بند کیٔے
بیٹھے تھے، یِسوعؔ اَچانک اُن کے درمیان آ کھڑے ہویٔے
اَور فرمایا، ”تُم پر سلامتی ہو!“ 20 یہ کہہ کر آپ نے اَپنے
ہاتھ اَور اَپنی پسلی اُنہیں دِکھائی۔ شاگرد خُداوندؔ کو دیکھ
کر خُوشی سے بھر گئے۔ 21 یِسوعؔ نے پھر سے فرمایا، ”تُم پر
سلامتی ہو! جَیسے باپ نے مُجھے بھیجا ہے وَیسے ہی، میں
تُمہیں بھیج رہا ہُوں۔“ 22 یہ کہہ کر آپ نے اُن پر پھُونکا
اَور فرمایا، ”پاک رُوح پاؤ۔ 23 اگر تُم کسی کے گُناہ مُعاف
کرتے ہو، تو اُس کے گُناہ مُعاف کیٔے جاتے ہیں؛ اگر مُعاف
نہیں کرتے، تو مُعاف نہیں کیٔے جاتے۔“ 24 جَب یِسوعؔ اَپنے
شاگردوں پر ظاہر ہُوئے، تو توماؔ (جسے دِیدِیمُس بھی کہتے
ہیں) اَورجو اُن بَارہ میں سے ایک تھا، وہاں مَوجُود نہ تھا۔
25 چنانچہ باقی شاگردوں نے توماؔ کو بتایا، ”ہم نے خُداوندؔ
کو دیکھاہے!“ مگر توماؔ نے اُن سے کہا، ”جَب تک میں
کیلوں کے سوراخ کے نِشان اُن کے ہاتھوں میں دیکھ کر اَپنی
اُنگلی اُن میں نہ ڈال لُوں، اَور اَپنے ہاتھ سے اُن کی پسلی
نہ چھولوں، تَب تک یقین نہ کروں گا۔“ 26 ایک ہفتہ بعد
یِسوعؔ کے شاگرد ایک بار پھر اُسی جگہ مَوجُود تھے، اَور
توماؔ بھی اُن کے ساتھ تھا۔ اگرچہ دروازے بند تھے، یِسوعؔ
آ کر اُن کے درمیان آ کھڑے ہویٔے، اَور اُن سے فرمایا، ”تُم
پر سلامتی ہو!“ 27 پھر آپ نے توماؔ سے فرمایا، ”اَپنی اُنگلی
لا؛ اَور میرے ہاتھوں کو دیکھ اَور اَپنا ہاتھ بڑھا اَور میری
پسلی کو چھُو، شک مت کر بلکہ ایمان رکھ۔“ 28 توماؔ نے
آپ سے کہا، ”اَے میرے خُداوندؔ اَور اَے میرے خُدا!“
29 یِسوعؔ نے توماؔ سے فرمایا، ”تُم مُجھے دیکھ کر مُجھ پر ایمان
لایٔے، مُبارک وہ ہیں جنہوں نے مُجھے دیکھا بھی نہیں پھر
بھی ایمان لایٔے۔“ 30 یِسوعؔ نے اَپنے شاگردوں کی مَوجُودگی

میں بہت سے معجزے کِئے، جو اِس کِتاب میں نہیں لکھے
گئے۔ 31 لیکن جو لکھے گئے ہیں اُن سے غرض یہ ہے کہ
تُم ایمان لاؤ کہ یِسوعؔ ہی المسیح ہیں، یعنی خُدا کا بیٹا ہیں،
اَور اُن پر ایمان لا کر اُن کے نام سے زندگی پاؤ۔

21 بعد میں یِسوعؔ نے خُود کو ایک بار پھر اَپنے
شاگردوں پر، تبریاسؔ کی جھیل یعنی گلِیل کی جھیل کے
کنارے۔ اِس طرح ظاہر کیا: 2 جَب شمعُونؔ پطرس، دِیدِیمُس
(یعنی توماؔ)، نتن ایل جو کانا گلِیل کا تھا، زبدیؔ کے بیٹے،
اَور دُوسرے دو شاگرد وہاں جمع تھے 3 تو شمعُونؔ پطرس اُن
سے کہنے لگے،"میں تو مچھلی پکڑنے جاتا ہُوں۔"اُنہُوں نے
کہا،"ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔"لہٰذا وہ نکلے اَور
جا کر کشتی میں سوارہوگئے، مگر اُس رات اُن کے ہاتھ
کُچھ بھی نہ آیا۔ 4 صُبح سویرے ہی، یِسوعؔ کنارے پر آ
کھڑے ہُوئے، لیکن شاگردوں نے اُنہیں نہیں پہچانا کہ وہ
یِسوعؔ ہیں۔ 5 یِسوعؔ نے اُنہیں آواز دے کر کہا،"دوستوں،
کیا کُچھ مچھلیاں ہاتھ آئیں؟"اُنہُوں نے جَواب دیا،"نہیں۔"
6 یِسوعؔ نے فرمایا،"جال کو کشتی کی داہنی طرف ڈالئے
تو ضرُور پکڑ سکوگے۔"چنانچہ اُنہُوں نے اَیسا ہی کیا اَور
مچھلیوں کی کثرت کی وجہ سے جال اِس قدر بھاری ہو گیا
کہ وہ اُسے کھینچ نہ سکے۔ 7 تَب یِسوعؔ کے عزیز شاگرد
نے پطرس سے کہا،"یہ تو خُداوؔند ہیں!"جَیسے ہی شمعُونؔ
پطرس نے یہ سُنا،"یہ تو خُداوؔند ہیں،"پطرس نے اَپنا کُرتا
پہنا (جسے پطرس نے اُتار رکھا تھا) اَور پانی میں کود
پڑے۔ 8 دُوسرے شاگرد جو کشتی میں تھے، جال کو جو
مچھلیوں سے بھرا ہُوا تھا کھینچتے ہوئے لائے، کیونکہ وہ
کنارے سے، تقریباً سَو میٹر سے زِیادہ دُور نہ تھے۔ 9 جَب وہ
کنارے پر اُترے تو دیکھا کہ کوئلوں کی آگ پر مچھلی رکھی
ہے، اَور پاس ہی روٹی بھی ہے۔ 10 یِسوعؔ نے اُن سے
فرمایا،"جو مچھلیاں تُم نے ابھی پکڑی ہیں اُن میں سے کُچھ
یہاں لے آؤ۔" 11 شمعُونؔ پطرس کشتی پر چڑھ گئے اَور جال
کو کنارے پر کھینچ لائے جو ایک سَو ترپن، بڑی بڑی
مچھلیوں سے بھرا ہُوا تھا، پھر بھی وہ پھٹا نہیں۔ 12 یِسوعؔ نے
اُن سے فرمایا،"آؤ اَور کُچھ کھالو۔"شاگردوں میں سے کسی
کو بھی جُرأت نہ ہوئی کہ پُوچھے،"آپ کون ہیں؟"وہ
جانتے تھے کہ آپ خُداوؔند ہی ہیں۔ 13 یِسوعؔ نے آ کر روٹی
لی، اَور اُنہیں دی اَور مچھلی بھی دی۔ 14 یِسوعؔ مُردوں میں
سے زندہ ہو جانے کے بعد تیسری مرتبہ اَپنے شاگردوں
پر ظاہر ہوئے۔ 15 جَب وہ کھانا کھا چُکے، تو آپ نے
شمعُونؔ پطرس سے فرمایا،"یُوحنّا کے بیٹے شمعُونؔ، کیا تُم مُجھ
سے اِن سَب سے زِیادہ مَحَبّت رکھتے ہو؟"شمعُونؔ پطرس نے
کہا،"ہاں، خُداوؔند، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مَیں آپ سے
مَحَبّت رکھتا ہُوں۔"یِسوعؔ نے پطرس سے فرمایا،"میرے برّوں
کو چرا۔" 16 یِسوعؔ نے پھر فرمایا،"یُوحنّا کے بیٹے شمعُونؔ،
کیا تُم واقعی مُجھ سے مَحَبّت رکھتے ہو؟"پطرس نے جَواب
دیا،"ہاں، خُداوؔند، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ مَیں آپ سے
مَحَبّت رکھتا ہُوں۔"یِسوعؔ نے فرمایا،"تو پھر میری بھیڑوں کی
گلّہ بانی کرو۔" 17 حُضُور نے تیسری مرتبہ پھر پُوچھا،"یُوحنّا
کے بیٹے شمعُونؔ کیا تُم مُجھ سے مَحَبّت رکھتے ہو؟"پطرس کو رنج
پہنچا کیونکہ یِسوعؔ نے پطرس سے تین دفعہ پُوچھا تھا،"کیا تُم
مُجھ سے مَحَبّت رکھتے ہو؟"پطرس نے کہا،"خُداوؔند، آپ
تو سَب کُچھ جانتے ہیں؛ حُضُور آپ کو خُوب مَعلُوم ہے
کہ میں حُضُور سے مَحَبّت رکھتا ہُوں۔"یِسوعؔ نے فرمایا،"تُم
میری بھیڑیں چراؤ۔ 18 میں تُم سے سچّی حقیقت بیان کرتا
ہُوں کہ جَب تُم جَوان تھے اَور جہاں تمہاری مرضی ہوتی
تھی، اَپنی کمر باندھ کر چل دیا کرتے تھے؛ لیکن جَب
تُم بُوڑھے ہوگے تو اَپنے ہاتھ بڑھاؤگے، اَور کوئی دُوسرا
تمہاری کمر باندھ کر جہاں تُم جانا بھی نہ چاہو گے، وہاں
اُٹھالے جائیں گے۔" 19 یِسوعؔ نے یہ بات کہہ کر اِشارہ کر
دیا کہ پطرس کِس قِسم کی موت مَر کے خُدا کا جلال
ظاہر کریں گے۔ تَب یِسوعؔ نے پطرس سے فرمایا،"میرے
پیچھے ہولے!" 20 پطرس نے مُڑ کر دیکھا کہ یِسوعؔ کا عزیز
شاگرد اُن کے پیچھے پیچھے چلا آ رہاہے۔ (یہی وہ شاگرد

تھا جِس نے شام کے کھانے کے وقت یِسوعؔ کی طرف
جُھک کر پُوچھا تھا،"اَے خُداوؔند، وہ کون ہے جو آپ کو
پکڑوائے گا؟") 21 پطرس نے اُسے دیکھ کر، یِسوعؔ سے
پُوچھا،"اَے خُداوؔند، اِس شاگرد کا کیا ہوگا؟" 22 یِسوعؔ
نے جَواب دیا،"اگر مَیں چاہُوں کہ یہ میری واپسی تک
زندہ رہے، تو اِس سے تُمہیں کیا؟ تُم میرے پیچھے پیچھے چلے
آؤ۔" 23 یُوں، بھائیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ شاگرد
نہیں مَرے گا۔ لیکن یِسوعؔ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ نہ
مَرے گا؛ بَلکہ یہ فرمایا تھا،"اگر مَیں چاہُوں کہ وہ میرے
واپس آنے تک زندہ رہے، تو اِس سے تُمہیں کیا؟" 24 یہی
وہ شاگرد ہے جو اِن باتوں کی گواہی دیتا ہے اَور جِس نے
اُنہیں تحریر کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اُس کی گواہی سچّی
ہے۔ 25 یِسوعؔ نے اَور بھی بہت سے کام کئے۔ اگر ہر ایک
کے بارے میں تحریر کیا جاتا تو میں سمجھتا ہُوں کہ جو
کِتابیں وُجُود میں آتیں اُن کے لئے دُنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔



پھر مَیں نے شہر مُقدّس یعنی نئے یروشلیمؔ کو خُدا کے پاس سے آسمان سے اُترتے دیکھا جو اُس دُلہن کی مانند آراستہ تھا جِس نے اَپنے شوھر کے لِئے سنگار کِیا ھو۔ پھر مَیں نے تختِ الٰہی پر سے کسی کو بلُند آواز سے یہ کہتے سُنا،"دیکھو! اَب خُدا کی قِیام گاہ آدمیوں کے درمیان ھے اَور وہ اُن کے ساتھ سکونت کرے گا۔ اَور وہ اُس کے لوگ ھوں گے اَور خُدا خُود اُن کے ساتھ رھے گا اَور اُن کا خُدا ھو گا۔

مُکاشفہ 21:2-3

مُکاشفہ

19 اِس کے بعد مَیں نے آسمان پر گویا ایک بڑی جماعت
کو بُلند آواز سے یہ کہتے سُنا،"ہلّلویاہ! نَجات اَور جلال اَور
قُدرت ہمارے خُدا ہی کی ہے، 2 کیونکہ خُدا کے فیصلے
برحق اَور دُرست ہیں۔ اِس لیٔے کہ خُدا نے اُس بڑی کسبی
کو مُجرم ٹھہرایا ہے جِس نے اَپنی زناکاری سے دُنیا کو
خَراب کر دیا تھا۔ اَور خُدا نے اُس سے اَپنے بندوں کے
خُون کا بدلہ لے لیا ہے۔" 3 پھر دُوسری بار اُنہُوں نے پُکار
کر کہا:"ہللّویاہ! اَور اُس کے جلنے کا دُھواں اَبد تک اُٹھتا
رہے گا۔" (aiōn g165) 4 تَب چوبیسوں بُزرگوں اَور چاروں
جانداروں نے مُنہ کے بَل گِر کر خُدا کو جو تخت نشین تھا،
سَجدہ کرکے کہا:"آمین، ہللّویاہ!" 5 پھر تختِ الٰہی سے یہ آواز
آئی،"اَے خُدا کے سَب بندوں، خواہ چُھوٹے یا بڑے، تُم
جو اُس کا خوف رکھتے ہو، ہمارے خُدا کی حَمد کرو!"
6 پھر مَیں نے ایک اَیسی بڑی ہُجوم کی آواز سُنی جو کسی
بڑے آبشار کے شور اَور بجلی کے کڑکنے کی زوردار آواز کی
مانند تھی۔ وہ کہہ رہی تھی:"ہللّویاہ! کیونکہ خُداوؔند ہمارا
خُدا قادرمُطلق بادشاہی کرتا ہے۔" 7 آؤ ہم خُوشی منائیں
اَور نہایت شادمان ہوں اَور خُدا کی تمجید کریں! کیونکہ برّہ
کی شادی کا وقت آ گیا ہے، اَور اُس کی دُلہن نے اَپنے
آپ کو آراستہ کر لیا ہے۔ 8 "اَور اُسے چمکدار اَور صَاف
مہین کتّانی کپڑا، پہننے کا اِختیار دیا گیا ہے۔"(کیونکہ مہین
کتّانی کپڑے سے مُراد، مُقدّسین کے راستبازی کے کام
ہیں۔) 9 پھر فرشتہ نے مُجھ سے کہا،"لِکھ، مُبارک ہیں وہ
جو برّہ کی شادی کی ضیافت میں بُلائے گیٔے ہیں۔"اَور اُس
نے مزید کہا،"یہ خُدا کی حقیقی باتیں ہیں۔" 10 تَب میں
اُس کو سَجدہ کرنے کی غرض سے اُس کے قدموں پر گِر
پڑا۔ لیکن اُس نے مُجھ سے کہا،"خبردار! اَیسا مت کر! میں
بھی تیرا اَور تیرے بھائیوں اَور بہنوں کا ہم خدمت ہُوں
جو یِسوعؔ کی گواہی دینے پر قائِم ہیں۔ خُدا ہی کو سَجدہ
کر! کیونکہ یِسوعؔ کی گواہی دینا ہی نبُوّت کی رُوح ہے۔"
11 پھر مَیں نے آسمان کو کھُلا ہُوا دیکھا اَور مُجھے ایک
سفید گھوڑا نظر آیا جِس کا سوار وفادار اَور برحق کہلاتا
ہے۔ وہ صداقت سے اِنصاف اَور جنگ کرتا ہے۔ 12 اُس
کی آنکھیں آگ کے شُعلوں کی مانند ہیں اَور اُس کے سَر پر
بہت سے شاہی تاج ہیں۔ اُس کی پیشانی پر اُس کا نام بھی
لِکھّا ہُوا ہے جسے سِوائے اُس کے کوئی اَور نہیں جانتا۔
13 وہ خُون میں ڈُبوئے ہوئے جامہ میں مُلبّس ہے اَور اُس
کا نام خُدا کا کلِمہ ہے۔ 14 آسمانی فَوجیں سفید گھوڑوں
پر سوار، اَور سفید اَور صَاف مہین کتّانی لباس پہنے ہوئے
اُس کے پیچھے پیچھے چل رہیں تھیں۔ 15 اَور تمام قوموں
کو ہلاک کرنے کے لیٔے اُس کے مُنہ سے ایک تیز تلوار
نکلتی ہے۔"وہ لوہے کے شاہی عصا سے اُن پر حُکومت
کرے گا۔"وہ اُنہیں قادرمُطلق خُدا کے قہر کی مَے کے
حوض میں انگوروں کی طرح روند ڈالتا ہے۔ 16 اُس کی
پوشاک اَور ران پر یہ نام لِکھّا ہُوا ہے: بادشاہوں کا بادشاہ،
اَور خُداوندوں کا خُداوؔند۔ 17 پھر مَیں نے ایک فرشتہ کو
آفتاب پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اُس نے فِضا میں اُڑنے
والے تمام پرندوں سے بُلند آواز سے چِلّاکر کہا،"آؤ اَور خُدا
کی بڑی ضیافت میں شریک ہونے کے لیٔے جمع ہو جاؤ،
18 تاکہ تُم بادشاہوں، سپہ سالاروں، زور آوروں، گھوڑوں
اَور اُن کے سواروں کا، آزاد یا غُلاموں، چُھوٹے یا بڑے،
سَب آدمیوں کا گوشت کھاؤ۔" 19 تَب مَیں نے حَیوان کو
اَور رُوئے زمین کے بادشاہوں اَور اُن کی فَوجوں کو اُس
گھوڑے پر سوار اَور اُس کے لشکر سے جنگ کرنے کے
لیٔے جمع ہوتے دیکھا۔ 20 لیکن اُس حَیوان کو اَور اُس کے
ساتھ اُس جھُوٹے نبی کو بھی جِس نے اُس حَیوان کے نام
سے معجزانہ نِشان دِکھائے تھے، گِرفتار کر لیا گیا۔ جِس نے
اَیسے نِشان دِکھا کر اُن تمام لوگوں کو گُمراہ کیا تھا، جنہوں
نے حَیوان کا نِشان لگوایا تھا اَور اُس کے بُت کی پرستش
کی تھی۔ وہ دونوں آگ کی اُس جھیل میں زندہ ہی ڈال
دیئے گیٔے جو گندھک سے جلتی رہتی ہے۔ (Limnē Pyr

g3041 g4442) 21 اَور اُن کے باقی لوگ اُس گھوڑے کے
سوار کے مُنہ سے نکلنے والی تلوار سے ہلاک کر دیئے گیٔے
اَور سَب پرندے اُن کا گوشت کھا کر سیر ہو گیٔے۔

20 پھر مَیں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اُترتے دیکھا۔
اُس کے پاس اتھاہ گڑھے کی کُنجی تھی اَور وہ ہاتھ میں
ایک بڑی زنجیر لئے ہوئے تھا۔ (Abyssos g12) 2 اُس نے
اَژدھا یعنی پُرانے سانپ کو جو اِبلیس اَور شیطان ہے پکڑا
اَور اُسے ایک ہزار سال کے لیٔے باندھا۔ 3 اَور اتھاہ گڑھے
میں ڈال دیا اَور اُسے بند کرکے اُس پر مُہر لگا دی تا کہ وہ
تمام قوموں کو گُمراہ نہ کر سکے، جَب تک کہ ہزار سال
پُورے نہ ہو جائیں۔ اِس کے بعد اُس کا کچھ عرصہ کے
لیٔے کھولا جانا لازمی ہے۔ (Abyssos g12) 4 پھر مَیں نے
تخت دیکھے جِن پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہیں اِنصاف
کرنے کا اِختیار دیا گیا تھا۔ اَور مَیں نے اُن لوگوں کی
رُوحیں دیکھیں جِن کے سَر یِسوعؔ کی گواہی دینے اَور خُدا
کے کلام کی وجہ سے کاٹ دیئے گیٔے تھے۔ اُن لوگوں نے
نہ تو اُس حَیوان کو نہ اُس کی بُت کو سَجدہ کیا تھا، اَور نہ
اَپنی پیشانی یا ہاتھوں پر اُس کا نِشان لگوایا تھا۔ اَور وہ زندہ
ہوکر ایک ہزار بَرس تک المسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے
رہے۔ 5 اَور جَب تک یہ ہزار بَرس پُورے نہ ہوئے، باقی
مُردے زندہ نہیں کیٔے گیٔے۔ یہ پہلی قیامت ہے۔ 6 مُبارک
اَور مُقدّس ہیں وہ لوگ جو پہلی قیامت میں شریک ہوں۔
اُن پر دُوسری موت کا کوئی اِختیار نہیں بَلکہ وہ خُدا اَور
المسیح کے کاہِنؔ ہوں گے اَور ہزار بَرس تک اُس کے ساتھ
بادشاہی کرتے رہیں گے۔ 7 جَب ہزار بَرس پُورے ہو
چُکیں گے تو شیطان اَپنی قَید سے رہا کر دیا جائے گا۔
8 اَور اُن قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف آباد ہوں گی،
یعنی یاجُوجؔ اَور ماجُوجؔ کو گُمراہ کرکے جنگ کے لیٔے جمع
کرے گا۔ اُن کا شُمار سمُندر کی ریت کے برابر ہوگا۔ 9 وہ
ساری زمین پر پھیل جائیں گی اَور مُقدّسین کی لشکرگاہ اَور
اُس عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، تَب آسمان
سے آگ نازل ہوگی اَور اُنہیں بھسم کر ڈالے گی۔ 10 اَور
اِبلیس کو، جِس نے اُنہیں گُمراہ کیا تھا، آگ اَور گندھک
کی اُس جھیل میں پھینک دیا جائے گا، جہاں وہ حَیوان
اَور جھُوٹا نبی بھی ہوگا اَور وہ دِن رات اَبد تک عذاب میں
رہیں گے۔ (aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442) 11 تَب مَیں
نے ایک بڑا سفید تختِ الٰہی دیکھا اَور اُسے جو اُس پر تخت
نشین تھا۔ زمین اَور آسمان اُس کی حُضُوری سے بھاگ کر
غائب ہو گیٔے اَور اُنہیں کہیں ٹھکانا نہ مِلا۔ 12 اَور مَیں نے
چُھوٹے بڑے تمام مُردوں کو تختِ الٰہی کے سامنے کھڑے
دیکھا۔ تَب کِتابیں کھولی گئیں، پھر ایک اَور کِتاب کھولی
گئی یعنی کِتاب حیات؛ اَور جِس طرح اُن کِتابوں میں درج
تھا، تمام مُردوں کا اِنصاف اُن کے اعمال کے مُطابق کیا گیا۔
13 سمُندر نے اُن مُردوں کو جو اُس کے اَندر تھے دے دیا
اَور موت اَور عالمِ اَرواح نے اَپنے اَندر کے مُردوں کو دے
دیا، چنانچہ ہر ایک کا اِنصاف اُن کے اعمال کے مُطابق کیا
گیا۔ (Hadēs g86) 14 پھر موت اَور عالمِ اَرواح کو آگ کی
جلتی جھیل میں پھینک دیا گیا۔ یہ آگ کی جھیل دُوسری
موت ہے۔ (Hadēs g86, Limnē Pyr g3041 g4442) 15 اَور جِس
کسی کا نام کِتاب حیات میں درج نہ مِلا، اُسے بھی آگ
کی جلتی جھیل میں پھینک دیا گیا۔ (Limnē Pyr g3041 g4442)

21 پھر مَیں نے ”ایک نیا آسمان اَور ایک نئی زمین“ کو
دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اَور پہلی زمین ختم ہو گیٔے تھے اَور
کوئی سمُندر بھی مَوجُود نہ تھا۔ 2 پھر مَیں نے شہر مُقدّس
یعنی نئے یروشلیمؔ کو خُدا کے پاس سے آسمان سے اُترتے
دیکھا جو اُس دُلہن کی مانند آراستہ تھا جِس نے اَپنے
شوہر کے لیٔے سنگار کیا ہو۔ 3 پھر مَیں نے تختِ الٰہی پر سے
کسی کو بُلند آواز سے یہ کہتے سُنا، ”دیکھو! اَب خُدا کی قِیام
گاہ آدمیوں کے درمیان ہے اَور وہ اُن کے ساتھ سکونت
کرے گا۔ اَور وہ اُس کے لوگ ہوں گے اَور خُدا خُود اُن
کے ساتھ رہے گا اَور اُن کا خُدا ہوگا۔ 4 ’اَور وہ اُن کی
آنکھوں کے سارے آنسُو پونچھ دے گا۔ پھر وہاں نہ موت

باقی رہے گی،نہ ماتم نہ آہ و نالہ، نہ کوئی درد باقی رہے گا
کیونکہ جو پہلی چیزیں تھیں مِٹ جائیں گی۔" 5 تَب اُس نے
جو تخت نشین تھا مُجھ سے فرمایا،"دیکھ! میں سَب کُچھ نیا بنا
رہا ہُوں۔"پھر خُدا نے فرمایا،"لِکھ لے کیونکہ یہ باتیں حق
اَور مُعتبر ہیں۔" 6 پھر اُس نے مُجھ سے کہا،"ساری باتیں
پُوری ہو گئیں ہیں۔ میں اَلفا اَور اَومیگا یعنی اِبتدا اَور اِنتہا
ہُوں۔ میں پیاسے کو آبِ حیات کے چشمہ سے مُفت پِلاؤں
گا۔ 7 جو غالب آئے گا وہ اِن سَب چیزوں کا وارِث ہوگا۔
اَور مَیں اُن کا خُدا ہُوں گا اَور وہ میرے فرزند ہوں گے۔
8 مگر بُزدِلوں، بےاِعتقادو، گِھنونوں، قاتلوں، زناکاروں،
جادُوگروں، بُت پرستوں اَور سَب جھوٹوں کی جگہ آگ اَور
گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگی۔ یہ دُوسری موت
ہے۔")Limnē Pyr g3041 g4442(9 پھر اُن سات فرشتوں میں
سے جِن کے پاس آخری سات آفتوں سے بھرے ہوئے
پیالے تھے، ایک نے آکر مُجھ سے کہا کہ آ،"مَیں تُجھے
دُلہن یعنی برّہ کی بیوی دِکھاؤں۔" 10 اَور وہ مُجھے رُوح میں
ایک بڑے اُونچے پہاڑ پر لے گیا اَور مُجھے شہرِ مُقدّس یروشلیمؔ
کو خُدا کے پاس سے آسمان سے نیچے اُترتے دِکھایا۔ 11 اُس
میں خُدا کا جلال تھا اَور اُس کی چمک نہایت ہی قیمتی
پتّھر، یعنی اُس یَشب کی طرح تھی جو بِلّور کی طرح شفّاف
ہوتا ہے۔ 12 اُس کی فصیل بہت بڑی اَور اُونچی تھی اَور
اُس میں بَارہ پھاٹک تھے جِن پر بَارہ فرشتے تعینات تھے۔
بَارہ پھاٹکوں پر بنی اِسرائیلؔ کے بَارہ قبیلوں کے نام لکھے
ہوئے تھے۔ 13 تین پھاٹک مشرق کی طرف، تین شمال کی
طرف، تین جُنوب کی طرف اَور تین مغرب کی طرف تھے۔
14 شہر کی فصیل بَارہ بُنیادوں پر قائم تھی جِن پر برّہ کے بَارہ
رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 15 اَورجو فرشتہ مُجھ سے
مُخاطِب تھا اُس کے پاس شہر اَور اُس کے پھاٹکوں اَور اُس
کی فصیل کی پیمائش کرنے کے لِئے سونے کی ایک جریب
تھی۔ 16 اَور وہ شہر مُربّع شکل کی تھا یعنی اُس کا طُول اَور
عرض برابر تھا۔ اُس نے جریب سے شہر کی پیمائش کی تو وہ
تقریباً دو ہزار چار سَو چودہ کِلومیٹر لمبا، اِتنا ہی چوڑا اَور
اُونچا تھا۔ 17 پھر فرشتہ نے اِنسانی پیمائش کے مُطابق فصیل
کی پیمائش کی تو اُسے ایک سَو چوالیس ہاتھ یعنی پَینسٹھ
میٹر پایا۔ 18 وہ فصیل سنگِ یَشب سے بنی ہُوئی تھی اَور
شہر صَاف و شفّاف شیشے کی مانند خالص سونے کا بنا
ہُوا تھا۔ 19 شہر کی فصیل کی بُنیادیں ہر قِسم کے قیمتی
جواہر سے مُزیّن تھیں۔ پہلی بُنیاد سنگِ یَشب کی، دُوسری
نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زُمُرّد کی، 20 پانچویں
عقِیق کی، چھٹّی عقِیق احمر کی، ساتویں سُنہرے پتّھر کی،
آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی، دسویں یمنی پتّھر کی،
گیارھویں سنگِ سُنبُلی کی، بارھویں یاقُوت کی تھی۔ 21 اَور
بَارہ پھاٹک بَارہ موتیوں کے تھے یعنی ہر پھاٹک سالِم موتی کا
تھا۔ اَور شہر کی شاہراہ شفّاف شِیشَہ کی مانند خالص سونے
کی تھی۔ 22 مَیں نے شہر میں کوئی بیت المُقدّس نہ دیکھا
کیونکہ قادرمُطلق خُداوؔند خُدا اَور برّہ اُس کے بیت المُقدّس
ہیں۔ 23 وہ شہر، سُورج اَور چاند کی رَوشنی کا مُحتاج نہیں
کیونکہ خُداوؔند کے جلال نے اُسے رَوشن کر رکھا ہے
اَور برّہ اُس کا چراغ ہے۔ 24 اَور دُنیا کی سَب قومیں اُس
کی رَوشنی میں چلے پھریں گی اَور رُوئے زمین کے بادشاہ
اُس میں اَپنی شان و شوکت کے سامان اُس میں لائیں گے۔
25 اَور اُس کے پھاٹک کبھی بند نہ ہوں گے کیونکہ وہاں
رات نہیں ہوگی۔ 26 اَور دُنیا کے تمام لوگوں کی شان و
شوکت اَور عزّت کا سامان اُس میں لائیں گے۔ 27 اَور اُس
میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو شرمناک حرکت
کرتا یا جھُوٹی باتیں گھڑتا ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وُہی
ہوں گے جِن کے نام برّہ کی کِتاب حیات میں درج ہیں۔

22 پھر اُس فرشتہ نے مُجھے آبِ حیات کا ایک دریا
دِکھایا، جو بِلّور کی مانند شفّاف تھا، جو خُدا اَور برّہ کے
تخت سے نکل کر بہتا تھا۔ 2 یہ دریا اُس شہر کی شاہراہ
کے وَسط میں بہتا تھا۔ اَور اُس دریا کے دونوں طرف شجرِ
حیات تھے۔ اُس میں بَارہ قِسم کے پھل آتے تھے اَور ہر مہینے

میں پھل دیتا تھا اَور اُس درخت کے پتّوں سے دُنیا کی سَب
قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ 3 وہاں کوئی بھی ملعُون چیز پھر
کبھی نہ ہوگی۔ خُدا اَور برّہ کا تخت اُس شہر میں ہوگا اَور
اُس کے خادِم اُس کی عبادت کریں گے۔ 4 اَور وہ اُس کا
چہرہ دیکھیں گے اَور اُس کا نام اُن کی پیشانی پر لِکھّا
ہوگا۔ 5 اَور وہاں پھر کبھی رات نہ ہوگی اَور وہ چراغ
اَور سُورج کی رَوشنی کے مُحتاج نہ ہوں گے کیونکہ خُداوند
خُدا خُود اُنہیں رَوشن کرے گا اَور وہ اَبد تک بادشاہی
کرتے رہیں گے۔ (aiōn g165) 6 اُس فرشتہ نے مُجھ سے
کہا،"یہ باتیں حق اَور مُعتبر ہیں۔ اَور خُداوند خُدا جو نبیوں
کی رُوحوں کو اُبھارنے والا ہے، اَپنے فرشتہ کو اِس غرض
سے بھیجا کہ وہ اَپنے بندوں پر وہ باتیں ظاہر کرے جِن
کا جلد پُورا ہونا ضرُوری ہے۔" 7 "دیکھ، میں جلد آنے
والا ہُوں! مُبارک ہے وہ جو اِس کِتاب کی نبُوّت کی باتوں
پر عَمل کرتا ہے۔" 8 میں وُہی یُوحنّا ہُوں جِس نے اِن
باتوں کو سُنا اَور دیکھا، اَور جَب مَیں یہ باتیں سُن چُکا اَور
دیکھ چُکا تو جِس فرشتہ نے مُجھے یہ باتیں دِکھائی، میں اُس
کے قدموں پر سَجدہ میں گِر پڑا۔ 9 لیکن اُس نے مُجھ سے
کہا،"خبردار، اَیسا مت کر! میں بھی تیرا، اَور تیرے بھائی
نبیوں اَور اِس کِتاب کی نبُوّت کی باتوں پر عَمل کرنے والوں
کا ہم خدمت ہُوں۔ خُدا ہی کو سَجدہ کر!" 10 پھر اُس نے
مُجھ سے کہا،"اِس کِتاب کی نبُوّت کی باتوں کو پوشیدہ نہ
رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ 11 جو بُرائی کرتا ہے وہ
بُرائی ہی کرتا جائے، اَورجو نجِس ہے وہ نجِس ہی ہوتا
جائے، جو راستباز ہے وہ راستبازی ہی کرتا جائے اَورجو
پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا چلا جائے۔" 12 "خُداوند یِسوعؔ
فرماتے ہیں، دیکھ! میں جلد آنے والا ہُوں! اَور ہر ایک
کو اُس کے عَمل کے مُطابق دینے کے لِئے اجر میرے پاس
مَوجُود ہے۔ 13 میں ہی اَلفا اَور اَومیگا، اوّل اَور آخر، اِبتدا
اَور اِنتہا ہُوں۔ 14 "مُبارک ہیں وہ جنہوں نے اَپنے لباس دھو
لِئے ہیں کیونکہ اُنہیں شجرِ حیات کے پھل کھانے کا حق
ملے گا اَور وہ پھاٹکوں سے شہر میں داخل ہو سکیں گے۔
15 لیکن کُتّے، جادُوگر، زناکار، قاتل، بُت پرست اَور جھُوٹ
بولنے والے اَور جھُوٹ کو پسند کرنے والے، یہ سَب اُس
شہر سے باہر ہی رہ جائیں گے۔ 16 "مُجھ یِسوعؔ، نے اَپنا
فرشتہ تمہارے پاس اِس لِئے بھیجا کہ وہ تمام جماعتوں میں
اِن باتوں کی تمہارے آگے گواہی دے کہ میں حضرت
داویؔد کی اصل اَور نَسل اَور صُبح کا نُورانی ستارہ ہُوں۔"
17 پاک رُوح اَور دُلہن کہتی ہیں،"آ!"اَور ہر سُننے والا بھی
کہے،"آ!" جو پیاسا ہو وہ آئے، اَورجو پانے کی تمنّا رکھتا
ہے وہ آبِ حیات مُفت حاصل کر لے۔ 18 میں یُوحنّا، اِس
کِتاب کی نبُوّت کی باتیں سُننے والے ہر شخص کو آگاہ کرتا
ہُوں کہ اگر کوئی اِس کِتاب میں کسی بات کا اِضافہ کرے
تو خُدا اِس میں لکھی ہُوئی آفتیں اُس پر نازل کرے گا۔
19 اَور اگر کوئی اِس نبُوّت کی کِتاب کی باتوں میں سے کچھ
نکال دے تو خُدا اِس کِتاب میں مذکور شجرِ حیات اَور شہر
مُقدّس میں رہنے کا حق اُس سے چھین لے گا جِس کا
بَیان اِس کِتاب میں ہے۔ 20 جو اِن سَب باتوں کی تصدیق
کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں،"بے شک میں جلد آنے
والا ہُوں۔"آمین۔ اَے خُداوند یِسوعؔ، آئیے۔ 21 خُداوند یِسوعؔ
کا فضل خُدا کے مُقدّسین کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔

66 Verses

اردو at AionianBible.org

The Bible is a library of 66 books in the Protestant Canon written by 40 different men over a span of 1,500 years from 1435 BC to 65 AD with one consistent message. From the first page through the last, Jesus. Genesis promised our deliverer is coming, Jesus. Moses said our better prophet is coming, Jesus. Isaiah prophesied our Messiah will be a suffering servant, Jesus. John announced our Anointed One is here, Jesus. Jesus himself testified he is our Lord God, Yahweh. The gospels agree our conqueror of death has risen, Jesus. The Apostles witnessed our victor ascend to his throne in Heaven, Jesus. And Revelation promises Jesus' return for our final judgment. Are you ready? Read the Bible cover to cover at AionianBible.org and answer these questions. How did I get here? Why am I here? How do I determine right or wrong? How can I escape condemnation? What is my destiny? Begin with the primer verses below.

پیدائش 8:9 تَب خُدا نے نوحؔا اَور اُن کے بیٹوں سے کہا، 9:9 ”اَب مَیں تُم سے اَور تمہارے بعد تمہاری نَسل سے عہد کرتا
ہُوں 10:9 اَور اِس کے علاوہ سَب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا مویشی اَور کیا سَب جنگلی جانور
جو تمہارے ساتھ جہاز سے باہر نکلے یعنی زمین پر مَوجُود ہر جاندار سے عہد کرتا ہُوں۔ 11:9 مَیں تُم سے عہد کرتا ہُوں
کہ پھر کبھی کویٔی جاندار سیلابی پانی سے ہلاک نہ ہوگا اَور نہ ہی زمین کو تباہ کرنے کے لیٔے پھر کبھی سیلاب آئے
گا۔“ 12:9 اَور خُدا نے فرمایا،”اَورجو عہد مَیں اَپنے اَور تمہارے اَور ہر جاندار کے درمیان باندھتا ہُوں جو تمہارے ساتھ
ہیں، اَورجو عہد آنے والی پُشتوں کے لیٔے ہے، اُس کا نِشان یہ ہے: 13:9 مَیں نے بادلوں میں اَپنی قوسِ قُزح کو قائِم کیا
ہے، اَور وہ میرے اَور زمین کے درمیان عہد کا نِشان ہوگی۔

خُروج 13:14 تَب مَوشہ نے لوگوں سے کہا،”ڈرو مت! ہمّت سے کام لو اَور خاموشی سے کھڑے رہو! تُم اُس نَجات کے
کام کو دیکھوگے، جو یَاہوِہ آج تُمہیں دِکھائیں گے، اَور جِن مِصریوں کو تُم آج دیکھ رہے ہو، اُنہیں پھر کبھی نہ
دیکھوگے۔ 14:14 یَاہوِہ تمہاری طرف سے جنگ لڑیں گے۔ بس خاموش رہو اَور اِنتظار کرو۔“

اَحبار 26:20 اَور تُم میرے لیٔے پاک بنے رہنا کیونکہ مَیں جو یَاہوِہ ہُوں پاک ہُوں؛ اَور مَیں نے تُمہیں دیگر قوموں سے
الگ کیا ہے تاکہ تُم میری خاص قوم بنے رہو۔

گِنتی 24:6 ”’یَاہوِہ تُمہیں برکت دیں اَور تُمہیں محفوظ رکھیے؛ 25:6 یَاہوِہ اَپنا چہرہ تُجھ پر جلوہ گر فرمائیں اَور تُجھ پر مہربان
ہُوں؛ 26:6 یَاہوِہ اَپنا چہرہ اُٹھائیں اَور تمہاری طرف متوجّہ ہُوں اَور تُمہیں سلامتی بخشیں۔‘“

اِستِثنا 18:18 میں اُن کے لیٔے اُن ہی کے اِسرائیلی بھائیوں میں سے تمہاری مانند ایک نبی بھیجوں گا اَور مَیں اَپنا کلام اُس
کے مُنہ میں ڈالوں گا۔ اَورجو کُچھ میں اُسے حُکم دُوں گا وُہی سَب کُچھ اُن سے بَیان کرے گا۔ 19:18 جو کویٔی میری بات
جسے وہ میرے نام سے کہے گا، نہ سُنے گا، تو میں خُود اُن سے حِساب لُوں گا۔

یہوشُعؔ 7:1 ”پس زور پکڑو اَور نہایت دِلیر ہو جاؤ اَور اُس سارے آئین پر احتیاط کے ساتھ عَمل کرو جو میرے خادِم مَوشہ
نے تُمہیں دیا اَور اُس سے نہ تو داہنے ہاتھ مُڑنا اَور نہ بائیں تاکہ جہاں کہیں تُم جاؤ کامیاب ہو جاؤ۔ 8:1 یہ کِتاب توریت
تمہارے مُنہ سے کبھی دُور نہ ہونے پائے۔ دِن اَور رات اِسی پر دھیان دیتے رہنا تاکہ جو کُچھ اِس میں لِکھّا ہے اُس پر

تُم احتیاط کے ساتھ عَمل کر سکو۔ تَب تمہارا اِقبال بُلند ہوگا اَور تُم کامیاب ہوگے۔ 9:1 کیا مَیں نے تُمہیں حُکم نہیں دیا؟ لہٰذا مضبُوط ہو جاؤ اَور حوصلہ رکھو۔ خوف نہ کرو اَور ہِمّت نہ ہارو کیونکہ جہاں جہاں تُم جاؤگے، یَاہوِہ تمہارے خُدا تمہارے ساتھ رہیں گے۔“

قُضاۃ 7:2 یہوشُعؔ کی زندگی بھر اَور اُن بُزرگوں کی خدمت کی جو یہوشُعؔ کے بعد بھی زندہ رہے اَور اُن سَب بڑے بڑے کاموں سے واقف تھے جو یَاہوِہ نے بنی اِسرائیل کے لِئے کِئے تھے اِسرائیلی یَاہوِہ ہی کی عبادت کرتے رہے۔

رُوتؔ 16:1 لیکن رُوتؔ نے کہا:”تُم اِصرار نہ کر کہ مَیں تُجھے چھوڑ دُوں یا تُجھ سے بھاگ کر دُور چلی جاؤں۔ جہاں تُم جاؤگی میں بھی وہاں چلُوں گی اَور جہاں تُم رہوگی میں بھی وہیں رہُوں گی۔ تمہارے لوگ میرے لوگ ہوں گے اَور تمہارا خُدا میرا خُدا ہوگا۔ 17:1 جہاں تُم مَروگی میں بھی وہیں مروں گی، اَور وہیں دفن ہو جاؤں گی۔ اگر موت کے سِوا کوئی اَور چیز مُجھے تُجھ سے جُدا کرے تو یَاہوِہ مُجھ سے اَیسا ہی بَلکہ اِس سے بھی زِیادہ سختی سے پیش آئے۔“

1 شموایلؔ 7:16 لیکن یَاہوِہ نے شموایلؔ سے کہا،”اُس کی ظاہری شکل و صورت اَور اُس کے دراز قد ہونے کا خیال نہ کر کیونکہ مَیں نے اُسے ردّ کر دیا ہے۔ اِس لِئے کہ یَاہوِہ اُن باتوں کو اَیسے نہیں دیکھتے جَیسے اِنسان دیکھتا ہے۔ اِنسان ظاہری شکل و صورت کو دیکھتا ہے لیکن یَاہوِہ دِل کو دیکھتے ہیں۔“

2 شموایلؔ 22:7 ”اَے یَاہوِہ قادر آپ واقعی کتنے عظیم ہیں! اَور جَیسا کہ ہم نے خُود اَپنے کانوں سے سُنا ہے آپ کی مانند کوئی نہیں اَور آپ کے سِوا کوئی خُدا نہیں ہے۔

1 سلاطین 3:2 اَور جِس بات کا یَاہوِہ تمہارے خُدا نے حُکم دیا ہے اُس پر عَمل کرو، اُن کی راہوں پر چلو اَور اُن کے قوانین اَور اَحکام، آئین اَور طریقے کو بجا لاؤ، جَیسا کہ مَوشہ کے آئین میں لِکھّا ہے۔ اَیسا کرنے سے جو کُچھ تُم کرو اَور جہاں کہیں تُم جاؤ، وہاں تُمہیں پُوری کامیابی حاصل ہوگی۔

2 سلاطین 19:22 کیونکہ تمہارا دِل حلیم ہے، اَور تُم نے خُود کو یَاہوِہ کے حُضُور حلیم کیا ہے، جَب تُم نے وہ بات سُنی جو مَیں نے اِس مقام اَور اِس کے باشِندوں کے متعلّق کہا ہے کہ وہ لعنتی ٹھہریں گے اَور تباہ کر دئیے جائیں گے، تو تُم نے اَپنے کپڑے پھاڑے اَور تُم نے میرے حُضُور ماتم کیا ہے۔ لہٰذا یہ یَاہوِہ کا پیغام ہے کہ مَیں نے بھی تمہاری فریاد سُن لی ہے۔

1 تواریخ 17:29 اَے میرے خُدا، میں یہ بھی جانتا ہُوں کہ آپ دِل کو جانچتے ہیں اَور دیانتداری میں آپ کی خُوشنودی ہے۔ مَیں نے یہ تمام چیزیں اَپنی صدق دِلی اَور نیک نیّت سے دی ہیں اَور مُجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرّت حاصل ہُوئی ہے کہ آپ کے لوگ جو یہاں حاضِر ہیں یہ سَب کچھ اَپنی خُوشی سے دے رہے ہیں۔

2 تواریخ 14:7 اگر میری قوم جو میرے نام سے جانی جاتی ہے، فروتن ہوکر دعا کرے اَور میرے دیدار کی طالب ہو اَور اَپنی بُری روِشوں سے تَوبہ کرے، تو میں آسمان پر سے اُن کی سُنوں گا اَور اُن کے گُناہ مُعاف کر دُوں گا اَور اُن کے مُلک کو پھر سے شفا بخشوں گا۔

عزرا 10:7 اِس لِئے کہ عزراؔ نے اَپنے آپ کو یَاہوِہ کے آئین کے مطالعہ اَور اُس پر عَمل کرنے اَور اُس کے قوانین اَور آئین اِسرائیل کو سِکھانے کے لِئے وقف کر رکھا تھا۔

نحمیاہ 3:6 اِس لِئے مَیں نے اِس جَواب کے ساتھ اُن کی طرف قاصِد بھیجے:"میں ایک بڑے منصُوبہ پر کام میں مصروف ہُوں اِس لِئے نہیں آسکتا۔ یہ کام چھوڑکر تمہارے پاس میرے آنے سے کام کیوں بند ہو؟"

ایستؔر 14:4 اگر تُو اَب بھی زبان بند رکھے گی تو یہُودیوں کو تو کسی اَور طرف سے مدد اَور نَجات پہُنچ جائے گی لیکن تُو اَپنے باپ کے گھرانے سمیت ہلاک ہوگی۔ کون جانتا ہے کہ تُو اَیسے مُشکل وقت میں ہماری مدد کرنے کے لِئے اِس شاہی مرتبہ تک پہُنچی ہے؟"

ایُّوب 25:19 میں جانتا ہُوں کہ میرا نَجات دِہندہ زندہ ہے، اَور آخِرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔

زبُور 1:23 داویؔد کا زبُور۔ یَاہوِہ میرا چوپان ہیں، مُجھے کوئی کمی نہ ہوگی۔ 2:23 وہ مُجھے سبز و شاداب چراگاہوں میں بِٹھاتے ہیں، وہ مُجھے سکون بخش چشموں کے پاس لے جاتے ہیں، 3:23 اَور میری جان کو بحال کرتے ہیں۔ وہ اَپنے نام کی خاطِر صداقت کی راہوں پر میری رہنمائی کرتے ہیں۔ 4:23 خواہ میں موت کی تاریک وادی میں سے ہوکر گزروں، تو بھی میں کسی بُلا سے نہ خوف کھاؤں گا، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کا عصا اَور آپ کی چھڑی، مُجھے تسلّی بخشتے ہیں۔ 5:23 آپ میرے دُشمنوں کے رُوبرو میرے لِئے دسترخوان بچھاتے ہیں۔ آپ نے میرے سَر پر تیل مِلا ہے؛ میرا پیالہ لبریز ہوتاہے۔ 6:23 یقیناً نیکی اَور شفقت و محَبّت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اَور مَیں ہمیشہ یَاہوِہ کے گھر میں، سکونت کروں گا۔

امثال 5:3 اَپنے پُورے دِل سے یَاہوِہ پر توکّل رکھو، اَور اَپنے فہم پر تکیہ نہ کرو؛ 6:3 اَپنی سَب روِشوں میں یَاہوِہ کو یاد رکھو، اَور وہ تمہاری راہیں ہموار کریں گے۔

واعظ 10:3 مَیں نے اُس بھاری بوجھ کو بغور احتیاط سے تفتیش کی ہے جسے خُدا نے بنی آدمؔ کے کندھوں پر رکھا ہے۔ 11:3 خُدا نے ہر ایک چیز کو اَپنے وقت کے لِئے خُوبصورت بنایا ہے۔ اَور اُس نے اِنسان کے دِل میں اَبدیّت بھی ڈالی ہے۔ گو اِنسان خُدا کے کاموں کو جو اُس نے شروع سے لے کر آخِر تک کیا ہے اُسے کبھی سمجھ نہیں سَکتا ہے۔

غزل الغزلات 4:2 میرے محبُوب کو مُجھے ضیافت گاہ میں لے جانے دو، اَور اُس کا پرچم مُجھ پر مَحَبّت کا پرچم ہو۔

یَشعیاہ 6:9 کیونکہ ہمارے لِئے ایک ولد پیدا ہُواہے، ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اَور سلطنت اُس کے کندھوں پر ہوگی۔ اَور وہ عجِیب مُشیر، قادر خُدا، اَبدیّت کا باپ اَور سلامتی کا شہزادہ کہلائے گا۔ 7:9 اُس کی سلطنت کے اِقبال اَور سلامتی کی اِنتہا نہ ہوگی۔ وہ داویؔد کے تخت اَور اُس کی مملکت پر اِس وقت سے لے کر اَبد تک حُکومت کریں گے۔ اَور اُسے عدل اَور راستی کے ساتھ قائم کرکے برقرار رکھے گا۔ قادرمُطلق یَاہوِہ کی غیُوری اُسے اَنجام دے گی۔

یرمیاہؔ 4:1 تَب یَاہوِہ کا یہ کلام مُجھ پر نازل ہُوا، 5:1 "اِس سے پیشتر کہ مَیں نے تُمہیں رحم میں خلق کیا، مَیں تُمہیں جانتا تھا، اَور اِس سے قبل کہ تُم پیدا ہو، مَیں نے تُمہیں مخصُوص کیا؛ اَور تُمہیں قوموں کے لِئے نبی مُنتخب کیا۔" 6:1 تَب یہ سُن کر مَیں نے فرمایا،"افسوس، یَاہوِہ قادر، دیکھیں، مُجھے تو بولنا بھی نہیں آتا؛ کیونکہ مَیں تو محض ایک بچّہ ہُوں۔" 7:1 لیکن

یَاھوِہ نے مُجھ سے فرمایا،”یہ نہ کہو،’میں تو محض ایک بچّہ ہُوں۔‘کیونکہ جِس کسی کے پاس مَیں تُمہیں بھیجوں گا وھاں تُمہیں جانا ھوگا اَورجو حُکم تُمہیں دُوں گا وہ تُمہیں بَیان کرنا ھوگا۔ 8:1 تُم اُن لوگوں سے خوف نہ کھاؤ کیونکہ مَیں تمہارے ساتھ ھُوں اَور مَیں تُمہیں محفوظ رکھوں گا،“یہ یَاھوِہ کا کلام ھے۔ 9:1 تَب یَاھوِہ نے اَپنا ھاتھ بڑھا کر میرا مُنہ چھُوا اَور مُجھ سے فرمایا،”اَب مَیں نے اَپنا کلام تمہارے مُنہ میں ڈال دیا ھے۔ 10:1 دیکھ، آج کے دِن مَیں نے تُجھے قوموں اَور سلطنتوں پر مُقرّر کِیا ھے تاکہ تُو اُنہیں جڑ سے اُکھاڑ دے یا ڈھا دے، تباہ کرے یا نِیست و نابود کرے تعمیر کرے یا نیا اُگائے۔“

نوحہ 21:3 پھر بھی مَیں یہ باتیں سوچتا ھُوں اَور اَپنی اُمّید کو زندہ رکھتا ھُوں۔ 22:3 یَاھوِہ کی لافانی مَحَبّت کے باعث ھم فنا نہیں ھُوئے، کیونکہ اُس کی رحمت لازوال ھے۔ 23:3 ھر صُبح وہ نئی ھوتی رھتی ھے؛ کیونکہ آپ کی وفاداری عظیم ھے۔

حزقی ایل 26:36 میں تُمہیں نیا دِل بخشوں گا اَور تمہارے اَندر نئی رُوح ڈال دُوں گا۔ میں تمہارا سنگین دِل نکال کر تُمہیں گوشتِیں دِل عطا کروں گا۔ 27:36 اَور مَیں اَپنی رُوح تمہارے باطِن میں ڈال دُوں گا اَور تُمہیں اَپنے آئین پر عَمل کرنے کی تلقین کروں گا اَور اَپنی شَریعت پر پابند رہنے کے لِئے آمادہ کروں گا۔

دانی ایل 16:3 شدرکؔ، میشکؔ اَور عبدنگوؔ نے بادشاہ سے عرض کی،”اَے نبوکدنضرؔ، اِس مُعاملہ میں ھم آپ کو کوئی جَواب دینا ضرُوری نہیں سمجھتے۔ 17:3 دیکھ ھمارا خُدا جِس کی ھم عبادت کرتے ھیں، ھم کو آگ کی جلتی بھٹّی سے چھُڑانے کی قُدرت رکھتے ھیں، اَور اَے بادشاہ وُھی ھمیں آپ کے ھاتھ سے چھُڑائیں گے۔ 18:3 اَور اگر وہ نہ بھی بچائے تو بھی اَے بادشاہ ھم آپ کو بتا دیتے ھیں کہ ھم آپ کے معبُودوں کی عبادت نہیں کریں گے، نہ اُس مُورت کو سَجدہ کریں گے جسے آپ نے نصب کیا ھے۔“

ھوشیعؔ 6:6 کیونکہ مَیں قُربانی سے زِیادہ رحم دِلی کو پسند کرتا ھُوں، اَور سوختنی نذروں سے بڑھ کر خُدا شناسی چاھتا ھُوں۔

یُوایلؔ 28:2 اَور اِس کے بعد، مَیں تمام لوگوں پر اَپنا رُوح نازل کروں گا۔ تمہارے بیٹے اَور بیٹیاں نبُوّت کریں گی، تمہارے بُزرگ خواب دیکھیں گے، اَور تمہارے نوجوان رُویا دیکھیں گے۔ 29:2 اُن دِنوں میں، میں اَپنے خادِم اَور خادِموں پر بھی، اَپنا رُوح نازل کروں گا۔ 30:2 میں اُوپر آسمان میں اَور نیچے زمین پر معجزے دِکھاؤں گا، یعنی خُون، اَور آگ اَور گاڑھا دُھواں۔ 31:2 اِس سے پہلے کہ یَاھوِہ کا خوفناک روزِ عظیم آئے، آفتاب تاریک ھو اَور ماھتاب خُون کی طرح سُرخ ھو جائے گا۔ 32:2 اَورجو کوئی یَاھوِہ کا نام لے کر پُکارے گا نَجات پائے گا؛ کیونکہ یَاھوِہ کے قول کے مُطابق کوہِ صِیّونؔ پر اَور یروشلیمؔ میں جِن باقی بچے لوگوں کو یَاھوِہ بُلائیں گے وہ نَجات پائیں گے۔

عامُوسؔ 24:5 بَلکہ اِنصاف کو دریا کی مانند، اَور صداقت کو کبھی نہ سوکھنے والے چشمے کی مانند جاری رکھو!

عبدیاہؔ 15:1 کیونکہ سَب قوموں کے واسطے، یَاھوِہ کا مُقرّر دِن نزدیک ھے، جَیسا تُم نے کیا ھے وَیسا ھی تمہارے ساتھ بھی کِیا جائے گا؛ تمہارا کِیا ھُوا تمہارے ھی سَر پر آئے گا۔

یُوناہؔ 6:2 میں پہاڑوں کی گہرائی تک ڈُوب گیا تھا، زمین کے راستے ہمیشہ کے لئے مجھ پر بندھو گئے تھے۔ لیکن آپ نے اَے یَاھوِہ، میرے خُدا، میری جان کو پاتال سے باہر نکالا۔“ 7:2 جَب میری زندگی ختم ہو رہی تھی، تَب اَے یَاھوِہ، مَیں نے آپ کو یاد کیا، اَور میری دعا آپ کے بیت المُقدّس میں آپ کے حُضُور میں پہُنچی۔ 8:2 جو لوگ جھُوٹے معبُودوں سے لپٹے رہتے ہیں وہ خُود کو خُدا کی شفقت سے محروم رکھتے ہیں۔ 9:2 لیکن مَیں تیری شُکر گزاری کا نغمہ گاتے ہُوئے، آپ کے لئے قُربانی گذرانوں گا۔ مَیں نے جو مَنّت مانگی ھے اُسے پُورا کروں گا۔ میں گواھی دیتا ہُوں، نَجات یَاھوِہ کی طرف سے آتی ھے۔

میکاہؔ 8:6 اَے اِنسان، اُنہُوں نے تُجھے دِکھا دیا کہ نیکی کیا چیز ھے، اَور یَاھوِہ تُجھ سے کیا چاھتے ہیں؟ یہ کہ تُو اِنصاف اَور رحمدلی کو عزیز رکھے، اَور اَپنے خُدا کے سامنے فروتنی سے چلے۔

ناحُومؔ 2:1 یَاھوِہ غیّور ہیں اَور اِنتقام لینے والے خُدا ہیں؛ یَاھوِہ اِنتقام لیتے ہیں اَور غضب سے معمُور ہیں۔ یَاھوِہ اَپنے مُخالفوں سے اِنتقام لیتے ہیں اَور اَپنے دُشمنوں کے خِلاف اَپنے قہر کو نازل کرتے ہیں۔ 3:1 یَاھوِہ قہر کرنے میں دھیمے اَور قُوّت میں غنی ہیں؛ یَاھوِہ مُجرم کو بے سزا نہ چھوڑیں گے۔ اُن کی راہ بگُولہ اَور گِردباد میں سے ہوکر گُزرتی ھے اَور بادل اُن کے پاؤں کی گرد ہیں۔

حبقُوقؔ 17:3 اگرچہ اَنجیر کا درخت نہ پھُولے اَور تاک میں انگور نہ لگیں، زَیتُون پھل نہ دے اَور کھیتوں میں پیداوار نہ ہو، اَور بھیڑ خانوں میں بھیڑیں نہ ہوں اَور مویشی خانے میں مویشی نہ ہوں۔ 18:3 پھر بھی مَیں یَاھوِہ میں مسرُور رہُوں گا، میں اَپنے مُنجّی خُدا سے خُوش ہوں گا۔ 19:3 یَاھوِہ قادر میری قُوّت ھے؛ وہ میرے پاؤں کو ہِرنی کے پاؤں جَیسے بناتا ھے، وہ مُجھے اُونچی بُلندیوں پر چڑھنے کے قابل بناتا ھے۔ موسیقی ھدایت کار کے لئے، تاردار سازوں پر۔

صفنیاہؔ 17:3 یَاھوِہ تیرا خُدا تیرے ساتھ ھے، وہ عظیم قوی یَاھوِہ تُجھے بچائیں گے۔ وہ تیرے سبب سے خُوشی منائیں گے، اَپنی مَحَبّت میں وہ تُمہیں پھر کبھی نہیں جھڑکیں گے، وہ گائیں گے اَور آپ کے لئے خُوشی منائیں گے۔

حجّیؔ 4:1 ”کیا تمہارے لئے خُود پکّی چھت گھروں میں رہنے کا یہ وقت ھے، جَب کہ بیت المُقدّس ویران پڑا ھے؟“ 5:1 اَب قادرمُطلق یَاھوِہ یُوں فرماتے ہیں:”تُم اَپنی روِش پر غور کرو۔ 6:1 تُم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا۔ تُم کھاتے ہو پر آسُودہ نہیں ہوتے۔ تُم پیتے ہو پر پیاس نہیں بُجھتی۔ تُم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے۔ تُم اَپنی کمائی ہُوئی مزدُوری سوراخ دار تھیلی میں رکھتے ہو۔“ 7:1 قادرمُطلق یَاھوِہ فرماتے ہیں:”اَپنی روِش پر غور کرو۔

زکریاہؔ 10:12 اَور مَیں داویؔد کے گھرانے اَور یروشلیمؔ کے باشِندوں پر فضل اَور مناجات کی رُوح نازل کروں گا، وہ اُس پر جسے اُنہُوں نے چھید ڈالا نظر کریں گے اَور اُس کے لئے اَیسا ماتم کریں گے جَیسے کوئی اَپنے اِکلوتے بیٹے کے لئے کرتا ھے۔ اَور اِس کے لیے اِس طرح غمگین ہوں گے جَیسے کوئی اَپنے پہلوٹھے کے لیے غمگین ہوتا ھے۔

ملاکیؔ 2:4 لیکن تُم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، تمہارے لئے آفتابِ صداقت اِس قدر طُلوع ہوگا کہ اُس کی کرنوں میں شفا ہوگی اَور تُم خُوشی سے گائے کے فربہ بچھڑوں کی مانند کُودو اَور پھاندو گے۔ 3:4 تَب اُس دِن تُم بدکاروں کو اِس قدر کُچل دوگے، گویا وہ تمہارے پاؤں کے تلووں کی راکھ ہوں۔ جِس دِن میں عَمَل کروں گا، یہ قادرمُطلق یَاھوِہ کا فرمان ھے۔

متّی 18:28 چنانچہ یِسوعؔ نے اُن کے پاس آ کر اُن سے فرمایا،"آسمان اَور زمین کا پُورا اِختیار مُجھے دیا گیا ہے۔ 19:28 اِس لئے
تُم جاؤ اَور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اَور اُنہیں باپ، بیٹے اَور پاک رُوح کے نام سے پاک غُسل دو، 20:28 اَور اُنہیں اُن
سبھی باتوں پر عَمل کرنے کی تعلیم دو جِن کا مَیں نے تُمہیں حُکم دیا ہے۔ اَور دیکھو! بے شک میں دُنیا کے آخر تک
ہمیشہ تمہارے ساتھ ہُوں۔" (aiōn g165)

مرقُس 14:1 حضرت یُوحنّا کو قَید کیٔے جانے کے بعد، یِسوعؔ صُوبہ گلیل میں آئے، اَور خُدا کی خُوشخبری سُنانے لگے۔
15:1 اَور آپ نے فرمایا، وقت آ پہُنچا ہے، اَور"خُدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تَوبہ کرو اَور خُوشخبری پر ایمان لاؤ۔"
16:1 صُوبہ گلیل کی جھیل کے کنارے جاتے ہوئے، یِسوعؔ نے شمعُونؔ اَور اُن کے بھائی اَندریاسؔ کو دیکھا یہ دونوں اُس
وقت جھیل میں جال ڈال رہے تھے، کیونکہ اُن کا پیشہ ھی مچھلی پکڑناتھا۔ 17:1 یِسوعؔ نے اُن سے فرمایا،"میرے، پیچھے
چلے آؤ، تو میں تُمہیں آدمؔ گیر بناؤں گا۔" 18:1 وہ اُسی وقت اَپنے جال چھوڑکر آپ کے ہمنوا ہوکر پیچھے ہو لیٔے۔

لُوقا 18:4 "خُداوؔند کا رُوح مُجھ پر ہے، اُس نے مُجھے مَسح کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خُوشخبری سُناؤں۔ اُس نے مُجھے
بھیجا ہے تاکہ میں قَیدیوں کے لیٔے رِہائی اَور اَندھوں کو بینائی کی خبر دُوں، کُچلے ہوؤں کو آزادی بخشوں۔

یُوحنّا 16:3 کیونکہ خُدا نے دُنیا سے اِس قدر مَحَبّت کی کہ اَپنا اِکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی بیٹے پر ایمان لائے ہلاک
نہ ہو بَلکہ اَبدی زندگی پائے۔ (aiōnios g166) 17:3 کیونکہ خُدا نے بیٹے کو دُنیا میں اِس لیٔے نہیں بھیجا کہ دُنیا کو سزا کا
حُکم سُنائے بَلکہ اِس لیٔے کہ دُنیا کو بیٹے کے وسیلہ سے نَجات بخشے۔

اعمال 7:1 یِسوعؔ المسیح نے اُن سے فرمایا،"جِن وقتوں یا میعادوں کو مُقرّر کرنے کا اِختیار صِرف آسمانی باپ کو ہے اُنہیں
جاننا تمہارا کام نہیں۔ 8:1 لیکن جَب پاک رُوح تُم پر نازل ہوگا تو تُم قُوّت پاؤگے؛ اَور تُم یروشلیمؔ، اَور تمام یہُودیؔہ اَور
سامریہؔ میں بَلکہ زمین کی اِنتہا تک میرے گواہ ہوگے۔"

رُومیوں 32:11 اِس لیٔے کہ خُدا نے سَب کو نافرمانی میں گِرفتار ہونے دیا تاکہ وہ سَب پر رحم فرمائے۔ (eleēsē g1653)
33:11 واہ! خُدا کی نِعمت، خُدا کی حِکمت اَور اُس کا علم بےحد گہرا ہے! اُس کے فیصلے سمجھ سے کِس قدر باھر
ہیں، اَور اُس کی راہیں بے نِشان ہیں! 34:11 "کِس نے خُداوؔند کی عقل کو سمجھا؟ یا کون اُس کا مُشیر ہُوا؟"
35:11 "کون ہے جِس نے خُدا کو کچھ دیا، کہ جِس کا بدلہ اُسے دیا جائے؟" 36:11 کیونکہ سَب چیزیں خُدا ھی کی
طرف سے ہیں، اَور خُدا کے وسیلہ سے ہیں اَور خُدا ھی کے لیٔے ہیں۔ خُدا کی تمجید ہمیشہ تک ہوتی رہے! آمین۔ (aiōn
g165)

1 کُرنتھِیوں 9:6 کیا تُم نہیں جانتے کہ بدکار خُدا کی بادشاھی کے وارِث نہ ہوں گے؟ دھوکے میں نہ رہو! نہ حرام کار نہ
بُت پرست، نہ زناکار، نہ لَونڈے باز 10:6 نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالی بکنے والے، نہ ظالِم خُدا کی بادشاھی کے
وارِث ہوں گے۔ 11:6 تُم میں بعض اَیسے ھی تھے مگر تُم خُداوؔند یِسوعؔ المسیح کے نام اَور ہمارے خُدا کے پاک رُوح سے
دھل گیٔے، پاک ہو گئے اَور راستباز ٹھہرائے گیٔے۔

2 کُرنتھِیوں 17:5 اِس لیٔے، اگر کوئی المسیح میں ہے، تو وہ نئی مخلُوق ہے۔ پُرانی چیزیں جاتی رہیں۔ دیکھو! اَب وہ نئی ہو
گئیں! 18:5 یہ سَب خُدا کی طرف سے ہے، جِس نے المسیح کے ذریعہ ہمارے ساتھ صُلح کرلی اَور صُلح کرانے کی

خدمت ہمارے سُپرد کر دی: **19:5** مطلب یہ ہے کہ خُدا نے المسیح کے ذریعہ دُنیا والوں سے صُلح کرلی، اَور اُنہیں اُن کی
سرکشیوں کا ذمّہ دار نہیں ٹھہرایا۔ المسیح نے صُلح کا یہ پیغام ہمارے سُپرد کر دیا۔ **20:5** اِس لئے ہم المسیح کے ایلچی
ہیں، گویا خُدا ہمارے ذریعہ لوگوں سے مُخاطِب ہوتاہے۔ لہٰذا ہم المسیح کی طرف سے اِلتماس کرتے ہیں: خُدا سے صُلح
کر لو۔ **21:5** خُدا نے المسیح کو جو گُناہ سے واقف نہ تھا، ہمارے واسطے گُناہ ٹھہرایا تاکہ ہم المسیح میں خُدا کی راستباز
ہو جائیں۔

گلتیوں **6:1** مُجھے تعجُّب ہے کہ تُم کسی اَور خُوشخبری کی طرف مائل ہو رہے ہو اَور جِس نے تُمہیں خُداوؔند المسیح کے
فضل سے بُلایا تھا، تُم اِتنی جلدی اُس سے مُنہ موڑ رہے ہو۔ **7:1** کوئی دُوسری خُوشخبری ہے ہی نہیں۔ ہاں، کُچھ لوگ
ہیں جو خُداوؔند المسیح کی خُوشخبری کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اَور تُمہیں اُلجھن میں ڈالے ہوئے ہیں۔

اِفسیوں **1:2** تمہاری سرکشی اَور گُناہوں کی وجہ سے تمہارا حال مُردوں کا سا تھا، **2:2** تُم اُن میں پھنس کر اِس دُنیا کی
روِش پر چلتے تھے اَور ہَوا کی عملداری کے حاکم، شیطان کی پیروی کرتے تھے جِس کی رُوح اَب تک خُدا کے نافرمان
لوگوں میں تاثیر کرتی ہے۔ (aiōn g165) **3:2** کبھی ہم بھی اُن میں شامل تھے، اَور نَفسانی خواھشوں میں زندگی گزارتے تھے
اَور دِل و دماغ کی ہر روِش کو پُورا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ اَور طبعی طور پر دُوسرے اِنسانوں کی طرح خُدا کے
غضب کے ماتحت تھے۔ **4:2** لیکن خُدا ہم سے بہت ہی مَحَبّت کرنے والا، اَور رحم کرنے میں غنی ہے، **5:2** جَب کہ ہم
اَپنی سرکشیوں کے باعث مُردہ تھے، خُدا نے ہمیں المسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تُمہیں خُدا کے فضل سے ہی نَجات مِلی ہے۔
6:2 خُدا نے ہمیں المسیح کے ساتھ زندہ کیا اَور آسمانی مقاموں پر المسیح یِسوعؔ کے ساتھ بِٹھایا، **7:2** تاکہ آنے والے زمانوں
میں اَپنے اُس بےحد فضل کو ظاہر کرے، جو خُدا نے اَپنی مہربانی سے المسیح یِسوعؔ کے ذریعہ ہم پر کیا تھا۔ (aiōn g165)
8:2 کیونکہ تُمہیں ایمان کے وسیلہ سے خُدا کے فضل ہی سے نَجات مِلی ہے، اَور یہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں، بَلکہ
خُدا کی بخشش ہے۔ **9:2** اَور نہ ہی یہ تمہارے اعمال کا اجر ہے کہ کوئی فخر کر سکے۔ **10:2** کیونکہ ہم خُدا کی
کاریگری ہیں اَور ہمیں المسیح یِسوعؔ میں نیک کام کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، جنہیں خُدا نے پہلے ہی سے ہمارے
کرنے کے لئے تیّار کر رکھا تھا۔

فِلپّیوں **7:3** لیکن جو کُچھ میرے لئے نفع کا باعث تھا، مَیں نے اُسے المسیح کی خاطِر نُقصان سمجھ لیا ہے۔ **8:3** بَلکہ میں
اَپنے خُداوؔند المسیح یِسوعؔ کی پہچان کو اَپنی بڑی خُوبی سمجھتا ہُوں، جِن کی خاطِر مَیں نے دُوسری تمام چیزوں کا نُقصان
اُٹھایا۔ اَور اُن چیزوں کو کُوڑا سمجھتا ہُوں، تاکہ المسیح کو حاصل کرلُوں **9:3** اَور المسیح میں پایا جاؤں، لیکن اَپنی شَریعت
والی راستبازی کے ساتھ نہیں، بَلکہ اُس راستبازی کے ساتھ جو المسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ راستبازی
خُدا کی طرف سے ہے اَور ایمان کی بُنیاد پر مَبنی ہے۔

کُلُسّیِوں **15:1** اِبن خُدا پوشیدہ خُدا کی صورت اَور تمام مخلُوقات میں پہلوٹھے ہیں۔ **16:1** کیونکہ المسیح کے وسیلہ سے سَب
کُچھ خلق کیا گیا: چاہے وہ چیزیں آسمان کی ہوں یا زمین کی، نمُودار ہوں یا پوشیدہ، شاھی تخت ہوں یا اُن کی قُوّتیں،
حُکمران ہوں یا تمام صاحبِ اِختیار، سَب چیزیں المسیح کے ذریعہ اَور اُن ہی کے خاطِر پیدا ہُوئی ہیں۔ **17:1** وہ سَب
چیزوں سے پہلے ہیں اَور المسیح میں ہی سَب چیزیں قائم ہیں۔ **18:1** اَور وُہی بَدن یعنی جماعت کا سَر ہیں اَور وُہی پہلے
مُردوں میں سے جی اُٹھنے والوں میں پہلوٹھے ہیں تاکہ سَب چیزوں میں پہلا درجہ اُن ہی کا ہو۔ **19:1** کیونکہ خُدا کو یہ

پسند آیا کہ خُدا کی ساری معمُوری المسیح میں سکونت کرے، 20:1 اَور المسیح کے صلیب پر بہائے گیٔے خُون کے وسیلے سے، سَب چیزوں کا چاھے وہ آسمان کی ہوں، یا زمین کی، اَپنے ساتھ صُلح کر لے۔

1 تھِسّلُنیکیوں 1:4 غرض، اَے بھائیوں اَور بہنوں! ہم تُم سے درخواست کرتے ھیں اَور خُداوند یِسوعؔ میں تمہاری حوصلہ اَفزائی کرتے ھیں کہ جِس طرح تُم نے ہم سے خُدا کو خُوش کرنے کی لِئے مُناسب چال چلنا سیکھا ھے، اَور تُم وَیسی ھی زندگی گزار بھی رہے ہو۔ اَور اَب اُسی طرح اَور ترقّی کرتے جاؤ۔ 2:4 کیونکہ تُم جانتے ہو کہ ہم نے خُداوند یِسوعؔ کی طرف سے تُمہیں کون کون سے حُکم پہُنچائے۔ 3:4 چنانچہ خُدا کی مرضی یہ ھے کہ تُم پاک بنو یعنی جنسی بدفعلی سے بچے رہو۔ 4:4 اَور تُم میں سے ہر ایک اَپنے جِسم کو پاکیزہ اَور باعزّت طریقے سے قابُو کرنا سیکھے۔ 5:4 اَور یہ کام شہوت پرستی سے نہیں اَور نہ غَیریہُودیوں کی طرح جو خُدا کو نہیں جانتی ھیں۔

2 تھِسّلُنیکیوں 6:3 اَے بھائیو اَور بہنوں! ہم اَپنے خُداوند یِسوعؔ المسیح کے نام میں تُمہیں حُکم دیتے ھیں کہ ہر اُس مُومِن سے دُور رہو جو کام سے جی چُراتا ھے، اَور اُس تعلیم کے مُطابق نہیں چلتا جو ہم نے دی ھے۔ 7:3 تُم آپ جانتے ہو کہ تُمہیں کِس طرح ھماری مانِند چلنا چاھئے۔ کیونکہ جَب ہم تمہارے ساتھ تھے تو کاہل نہیں تھے، 8:3 ہم کسی کی مُفت کی روٹی نہیں کھاتے تھے۔ بلکہ، رات دِن محنت مشقّت کرتے تھے، تاکہ ہم تُم میں سے کسی پر بوجھ نہ بنیں۔ 9:3 اِس لِئے نہیں کہ ھمارا تُم پر کوئی حق نہ تھا، بلکہ اِس لِئے کہ اَیسا نمونہ بنو جِس پر تُم چل سکو۔ 10:3 اَور جَب ہم تمہارے پاس تھے تَب بھی ھمارا یہی حُکم تھا:”جو آدمی کام نہیں کرے گا وہ کھانے سے بھی محروم رہے گا۔“

1 تیِمُتھِیُس 1:2 سَب سے پہلے میں یہ اِلتجا کرتا ہُوں کہ خُدا کے حُضُور میں دَرخواستیں، دعائیں، سفارشیں اَور شُکرگُزاریاں سَب کے لِئے کی جائیں۔ 2:2 بادشاھوں اَور سَب صاحبِ اِختیاروں کے لِئے بھی اِس غرض سے کہ ہم کمال دینداری اَور پاکیزگی سے اَمن اَور سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ 3:2 یہ بات ھمارے مُنجّی خُدا کے نزدیک خُوب اَور پسندِیدہ ھے، 4:2 خُدا چاھتاھے کہ سارے اِنسان نَجات پائیں اَور سچّائی کی پہچان تک پہُنچیں۔ 5:2 کیونکہ ایک ھی خُدا ھے اَور خُدا اَور اِنسانوں کے بیچ میں صِرف ایک ھی درمیانی ھے یعنی المسیح یِسوعؔ جو اِنسان ھیں،

2 تیِمُتھِیُس 8:2 یِسوعؔ المسیح کو یاد رکھ جو مُردوں میں سے جی اُٹھے، جو حضرت داویؔد کی نَسل سے ھیں۔ میں اِسی خُوشخبری کی مُنادی کرتا ہُوں، 9:2 اِسی خُوشخبری کے لِئے میں مُجرم کی طرح دُکھ اُٹھاتا اَور زنجیروں سے جکڑا ہُوا ہُوں۔ لیکن خُدا کا کلام قَید نہیں ھے۔ 10:2 چنانچہ مَیں خُدا کے مُنتخب لوگوں کی خاطِر، سَب کُچھ برداشت کرتا ہُوں تاکہ وہ بھی اُس نَجات کو جو المسیح یِسوعؔ کے ذریعہ ملتی ھے اَبَدی جلال کے ساتھ حاصل کریں۔ (aiōnios g166)

طِطُس 11:2 کیونکہ خُدا کا وہ فضل جو سارے اِنسانوں کی نَجات کا باعث ھے، ظاھر ہو چُکاھے۔ 12:2 وہ فضل ھمیں تربیّت دیتاھے کہ ہم بے دینی اَور دُنیوی خواھشوں کو چھوڑکر اِس دُنیا میں پرہیزگاری، صداقت اَور دینداری کے ساتھ زندگی گُزاریں، (aiōn g165) 13:2 اَور اُس مُبارک اُمّید یعنی اَپنے عظیم خُدا اَور مُنجّی، یِسوعؔ المسیح کے جلال کے ظاھر ہونے کے مُنتظر رھیں، 14:2 جنہوں نے اَپنے آپ کو ھماری خاطِر قُربان کر دیا تاکہ ھمارا فدیہ ہوکر ھمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھُڑا لیں اَور ھمیں پاک کرکے اَپنی خاص مِلکیّت کے لِئے ایک اَیسی اُمّت بنا لیں جو نیک کام کرنے میں سرگرم ہو۔

فِلیمون 3:1 ہمارے خُدا باپ اَور خُداوَند یِسوعؔ المسیح کی طرف سے تُمہیں فضل اَور اِطمینان حاصل ہوتا رہے۔ **4:1** اَپنی دعاؤں مَیں تُجھے یاد کرتے ہوئے میں ہمیشہ اَپنے خُدا کا شُکر اَدا کرتا ہُوں، **5:1** کیونکہ مَیں سُنتا ہُوں کہ تُم خُدا کے سَب مُقدّسین سے مَحَبّت رکھتے ہو اَور تمہارا ایمان خُداوَند یِسوعؔ پر ہے۔ **6:1** میری دعا ہے کہ کاش ایمان میں ہمارے ساتھ تمہاری شراکت المسیح کی خاطِر ہماری طرف سے تقسیم کی جانے والی ہر اَچھّی چیز کے بارے میں تمہاری سمجھ کو گہرا اَور مؤثر کرے۔ **7:1** اَے بھائی! مُجھے تیری مَحَبّت سے بہت خُوشی اَور تسلّی ہُوئی ہے کیونکہ تُونے مُقدّسین کے دِلوں کو تازہ کیا ہے۔

عِبرانیوں 1:1 گزرے زمانہ میں خُدا نے ہمارے آباؤاَجداد سے کئی مَوقعوں پر اَور مُختلف طریقوں سے نبیوں کی مَعرفت کلام کیا۔ **2:1** لیکن اِن آخری دِنوں میں خُدا نے ہم سے اَپنے بیٹے کی مَعرفت کلام کیا، جسے اُس نے سَب چیزوں کا وارِث مُقرّر کیا اَور جِس کے وسیلہ سے اُس نے کائِنات کو بھی خلق کیا۔ (aiōn g165) **3:1** بیٹا خُدا کے جلال کا عکس اَور اُس کی ذات کا عَین نقش ہے، اَور اَپنے قُدرتی کلام سے پُوری کائِنات کو سَنبھالتا ہے۔ اَور وہ گُناہوں سے پاک کرنے کے بعد، عالمِ بالا پر جا کر خُدا کے داھنی طرف تخت نشین ہُوئے۔

یعقوب 16:1 اَے میرے پیارے بھائیوں اَور بہنوں! فریب مت کھاؤ۔ **17:1** ہر اَچھّی نِعمت اَور کامِل تحفہ آسمان سے اَور نُوروں کے باپ کی طرف سے ھی نازل ہوتاہے۔ وہ سایہ کی طرح گھٹتا یا بڑھتا نہیں بَلکہ لاتبدیل ہے۔ **18:1** اُس نے اَپنی مرضی سے ہمیں کلامِ حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اُس کی مخلُوقات میں سے ہم گویا پہلے پھل ہوں۔

1 پطرس 18:3 اِس لئے المسیح بھی گُناھوں کے لئے ایک ھی بار قُربان ہُوا، یعنی ایک راستباز نے ناراستوں کے لئے دُکھ اُٹھایا تاکہ تُمہیں خُدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جِسم کے اِعتبار سے تو مارا گیا لیکن رُوح کے ذریعہ سے زندہ کیا گیا۔

2 پطرس 3:1 خُدا کی الٰہی قُدرت نے ہمیں وہ سَب کچھ عطا کیا ہے جو خُداپرست زندگی کے لئے ضرُوری ہے، اَور ہمیں یہ سَب کچھ اُن کی پہچان کے وسیلہ سے بخشا گیا ہے، جِس نے ہمیں اَپنے خاص جلال اَور نیکی کے ذریعہ بُلایا ہے۔ **4:1** اِنہیں کے ذریعہ خُدا نے ہم سے عظیم اَور بیش قیمتی وعدے کئے ہیں تاکہ تُم دُنیا کی بُری خواھشات سے پیدا ہونے والی خرابی سے آزاد ہوکر ذاتِ الٰہی میں شریک ہو سکو۔

1 یُوحنّا 1:2 میرے عزیز بچّوں! میں تُمہیں یہ باتیں اِس لئے لِکھتا ہُوں تاکہ تُم گُناہ نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی گُناہ کرے تو خُدا باپ کے پاس ہمارا ایک وکیل مَوجُود ہے یعنی راستباز یِسوعؔ المسیح۔ **2:2** اَور وُھی ہمارے گُناھوں کا کفّارہ ہے اَور نہ صِرف ہمارے ھی گُناھوں کا بَلکہ ساری دُنیا کے گُناھوں کا بھی کفّارہ ہے۔

2 یُوحنّا 7:1 کیونکہ بہت سے اَیسے گُمراہ کرنے والے دُنیا میں نکل چُکے ہیں جو یہ نہیں مانتے ہیں کہ یِسوعؔ المسیح مُجسّم ہوکر آئے ہیں، اَیسا ہر شخص گُمراہ کرنے والا اَور مُخالف المسیح یعنی دَجّال ہے۔

3 یُوحنّا 4:1 میرے لئے اِس سے بڑھ کر اَور کوئی خُوشی نہیں کہ میں یہ سُنوں کہ میرے بچّے حق پر چل رہے ہیں۔

یہُوداہؔ 3:1 عزیز دوستوں! جَب مَیں تُمہیں اُس نَجات کے بارے میں لِکھنے کا بےحد مُشتاق تھا جِس میں ہم سَب شامل ہیں تو مَیں نے تُمہیں یہ نصیحت لِکھنا ضرُوری سمجھا تاکہ تُم اُس ایمان کے لئے پُوری جدّوجہد کرو جو خُدا کے مُقدّسین کو ایک ھی بار ہمیشہ کے لئے سونپا گیا ہے۔ **4:1** کیونکہ بعض لوگ چوری چھپے تمہارے درمیان بھی گھُس آئے ہیں

جِن کی سزا کا بَیان قدیم زمانہ سے ھی کِتابِ مُقدّس میں درج کر دیا گیا تھا۔ یہ لوگ بے دین ھیں اَور ھمارے خُدا کے فضل کو اَپنی شہوت پرستی سے بدل ڈالتے ھیں اَور ھمارے واحد، خُود مُختار آقا یعنی خُداوَند یِسوعؔ المسیح کا اِنکار کرتے ھیں۔

مُکاشفہ 19:3 میں جنہیں پیار کرتا ھُوں اُنہیں ڈانٹتا اَور تنبیہ بھی کرتا ھُوں۔ اِس لِئے پُرجوش ھو اَور تَوبہ کر۔ **20:3** دیکھ! میں دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹا رھا ھُوں۔ اگر کوئی میری آواز سُن کر دروازہ کھولے، تو میں اَندر داخل ھوؤں گا، اَور ھم ایک دُوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ **21:3** جو غالب آئے، میں اُسے اَپنے ساتھ اَپنے تخت پر بیٹھنے کا حق دُوں گا، جِس طرح میں غالب آکر اَپنے باپ کے ساتھ اُس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ **22:3** جِس کے کان ھوں وہ سُنے کہ پاک رُوح جماعتوں سے کیا فرماتا ھے۔“

Reader's Guide

اردو at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are added to help your study. The notes show the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, *"As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you remain in him."* Every Christian is qualified to interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn God's word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good. However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible with God's help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, *"And we speak of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned."* So we cannot understand in our natural self, but we can with God's help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions, conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, *"Do your best to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed, properly handling the word of truth."* 2 Timothy 2:15. *"God has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,"* 2 Peter 1:4-8.

Glossary

اردو at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven special words to help us better understand the extent of God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the Strong's Concordance and Glossary definitions.

Abyssos g12
Greek: proper noun, place
Usage: 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
Meaning:
Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

aïdios g126
Greek: adjective
Usage: 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
Meaning:
Lasting, enduring forever, eternal.

aiōn g165
Greek: noun
Usage: 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
Meaning:
A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns, Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

aiōnios g166
Greek: adjective
Usage: 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
Meaning:
From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

eleēsē g1653
Greek: verb, aorist tense, active voice, subjunctive mood, 3rd person singular
Usage: 1 time in this conjugation, Romans 11:32
Meaning:
To have pity on, to show mercy. Typically, the subjunctive mood indicates possiblity, not certainty. However, a subjunctive in a purpose clause is a resulting action as certain as the causal action. The subjunctive in a purpose clause functions as an indicative, not an optative. Thus, the grand conclusion of grace theology in Romans 11:32 must be clarified. God's mercy on all is not a possibility, but a certainty. See ntgreek.org.

Geenna g1067
Greek: proper noun, place
Usage: 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
Meaning:
Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

Hadēs g86
Greek: proper noun, place
Usage: 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
Meaning:
Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for deceased believers.

Limnē Pyr g3041 g4442
Greek: proper noun, place
Usage: Phrase 5 times in the New Testament
Meaning:
Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for the Devil and his angels, Matthew 25:41.

Sheol h7585
Hebrew: proper noun, place
Usage: 66 times in 17 books, 50 chapters, and 64 verses
Meaning:
The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing and unbelieving, until the general resurrection.

Tartaroō g5020
Greek: proper noun, place
Usage: 1 time in 2 Peter 2:4
Meaning:
Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.



ایمان ہی سے جَب حضرت اَبراھامؔ بُلائے گئے تو وہ خُدا کا حُکم مان کر اُس جگہ چلے گئے جو بعد میں اُنہیں مِیراث کے طور پر مِلنے والی تھی حالانکہ وہ جانتے بھی نہ تھے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ - عِبرانیوں 11:8



اَور جَب فِرعوہ نے اُن لوگوں کو جانے دیا تو خُدا اُنہیں فلسطینیوں کے مُلک کے راستہ سے نہیں لے گئے اگرچہ وہ چھوٹا تھا کیونکہ خُدا نے فرمایا،”اگر اُنہیں جنگ کا سامنا کرنا پڑا تو اَیسا نہ ہو کہ وہ پچھتانے لگیں اَور مِصر لَوٹ جائیں۔“ - خُروج 13:17



کیونکہ اِبنِ آدم اِس لِئے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اِس لِئے کہ خدمت کرے اور اپنی جان دے کہ بہتیروں کو رہائی بخشے۔" - مرقُس 10:45

پَولُسؔ کی طرف سے لِکھا ہُوا خط، جو خُداوند المسیح یِسوعؔ کے خادِم، اَور رسول ہونے کے لِئے بُلائے گیٔ اَور خُدا کی خُوشخبری سُنانے کے لِئے مخصُوص کیٔ گیٔ، - رُومیوں 1:1

New Heavens and Earth

	Christ returns for his people
1956	Jim Elliot martyrd in Ecuador
1830	John Williams reaches Polynesia
1731	Zinzendorf leads Moravian mission
1614	Japanese kill 40,000 Christians
1572	Jesuits reach Mexico
1517	Martin Luther leads Reformation
1455	Gutenberg prints first Bible
1323	Franciscans reach Sumatra
1276	Ramon Llull trains missionaries
1100	Crusades tarnish the church
1054	The Great Schism
997	Adalbert marytyrd in Prussia
864	Bulgarian Prince Boris converts
716	Boniface reaches Germany
635	Alopen reaches China
569	Longinus reaches Alodia / Sudan
432	Saint Patrick reaches Ireland
397	Carthage ratifies Bible Canon
341	Ulfilas reaches Goth / Romania
325	Niceae proclaims God is Trinity
250	Denis reaches Paris, France
197	Tertullian writes Christian literature
70	Titus destroys the Jewish Temple
61	Paul imprisoned in Rome, Italy
52	Thomas reaches Malabar, India
39	Peter reaches Gentile Cornelius
33	Holy Spirit empowers the Church

(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

Resurrected 33 A.D.

Creation 4004 B.C.

Adam and Eve created	4004
Tubal-cain forges metal	3300
Enoch walks with God	3017
Methuselah dies at age 969	2349
God floods the Earth	2349
Tower of Babel thwarted	2247
Abraham sojourns to Canaan	1922
Jacob moves to Egypt	1706
Moses leads Exodus from Egypt	1491
Gideon judges Israel	1245
Ruth embraces the God of Israel	1168
David installed as King	1055
King Solomon builds the Temple	1018
Elijah defeats Baal's prophets	896
Jonah preaches to Nineveh	800
Assyrians conquer Israelites	721
King Josiah reforms Judah	630
Babylonians capture Judah	605
Persians conquer Babylonians	539
Cyrus frees Jews, rebuilds Temple	537
Nehemiah rebuilds the wall	454
Malachi prophecies the Messiah	416
Greeks conquer Persians	331
Seleucids conquer Greeks	312
Hebrew Bible translated to Greek	250
Maccabees defeat Seleucids	165
Romans subject Judea	63
Herod the Great rules Judea	37

(The Annals of the World, James Uusher)

Jesus Christ born 4 B.C.

Mankind is created in God’s image, male and female He created us

Sin entered the world through Adam and then death through sin

When are we?

<table>
<tr><td colspan="4">Fallen</td><td>Glory</td></tr>
<tr><td>Fall to sin
No Law</td><td>Moses’ Law
1500 B.C.</td><td>Christ
33 A.D.</td><td>Church Age
Kingdom Age</td><td>New Heavens
and Earth</td></tr>
<tr><td colspan="4">1 Timothy 6:16
Living in unapproachable light</td><td rowspan="7">Acts 3:21
Philippians 2:11
Revelation 20:3

God’s
perfectly
restored
fellowship
with all
Mankind
praising
Christ
as Lord
in the
Holy
City</td></tr>
<tr><td colspan="2">John 8:58
Pre-incarnate</td><td>John 1:14
Incarnate</td><td>Luke 23:43
Paradise</td></tr>
<tr><td colspan="2">Psalm 139:7
Everywhere</td><td colspan="2">John 14:17
Living in believers</td></tr>
<tr><td colspan="4">Ephesians 2:1-5
Serving the Savior or Satan on Earth</td></tr>
<tr><td colspan="4">Luke 16:22
Blessed in Paradise</td></tr>
<tr><td colspan="4">Luke 16:23, Revelation 20:5,13
Punished in Hades until the final judgment</td></tr>
<tr><td colspan="4">Hebrews 1:14
Serving mankind at God’s command</td></tr>
<tr><td colspan="4">2 Peter 2:4, Jude 6
Imprisoned in Tartarus</td><td rowspan="4">Matthew 25:41
Revelation 20:10

Lake of Fire
prepared
for the
Devil
and his
Angels</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">1 Peter 5:8, Revelation 12:10

Rebelling against Christ
Accusing mankind</td><td>Revelation 20:13
Thalaasa</td></tr>
<tr><td>Revelation 19:20
Lake of Fire</td></tr>
<tr><td>Revelation 20:2
Abyss</td></tr>
</table>

For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

<table>
<tr><td colspan="3">What are we?</td><td colspan="2">Genesis 1:26 - 2:3</td></tr>
<tr><td colspan="3">How are we sinful?</td><td colspan="2">Romans 5:12-19</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">Where are we?</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Innocence</td></tr>
<tr><td>Eternity Past</td><td>Creation 4004 B.C.</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Who are we?</td><td rowspan="3">God</td><td>Father</td><td rowspan="3">John 10:30

God’s perfect fellowship</td><td rowspan="7">Genesis 1:31

God’s perfect fellowship with Adam in The Garden of Eden</td></tr>
<tr><td>Son</td></tr>
<tr><td>Holy Spirit</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mankind</td><td>Living</td><td rowspan="9">Genesis 1:1

No Creation
No people</td></tr>
<tr><td>Deceased believing</td></tr>
<tr><td>Deceased unbelieving</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Angels</td><td>Holy</td></tr>
<tr><td>Imprisoned</td><td rowspan="5">Genesis 1:31

No Fall
No unholy Angels</td></tr>
<tr><td>Fugitive</td></tr>
<tr><td>First Beast</td></tr>
<tr><td>False Prophet</td></tr>
<tr><td>Satan</td></tr>
<tr><td colspan="3">Why are we?</td><td colspan="2">Romans 11:25-36, Ephesian 2:7</td></tr>
</table>

Destiny

اردو at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically translated as *Hell* show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell. Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament *Sheol* and New Testament *Hadēs*, 2) *Geenna*, 3) *Tartaroō*, 4) *Abyssos*, 5) *Limnē Pyr*, 6) *Paradise*, 7) *The New Heaven*, and 8) *The New Earth*. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter 2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31. Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated, Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus promised, *"the gates of Hades will not prevail,"* Matthew 16:18. Paul asks, *"Hades where is your victory?"* 1 Corinthians 15:55. John wrote, *"Hades gives up,"* Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, *"Do not be afraid,"* because he holds the keys to *unlock* death and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our *Good News* sounds like a warning to *"be afraid"* because Jesus holds the keys to *lock* Hades! Wow, we have it backwards! Hades will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation 21:1-8. So are those evacuated from Hades then, *"out of the frying pan, into the fire?"* Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead, read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the Goats, *"Then he will say also to those on the left hand, 'Depart from me, you cursed, into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,'"* Matthew 25:41. Bad news for the Devil. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in Heaven. *"If the first fruit is holy, so is the lump,"* Romans 11:16. Though unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.



اِس لِئے تُم جاؤ اَور تمام قوموں کو شاگرد بناؤ اَور اُنہیں باپ، بیٹے اَور پاک رُوح کے نام سے پاک غُسل دو، - متّی 28:19